



Islamhouse.com



المحتوى الإسلامي

AL-ISLAAM/Kramo som

enkyirekyire tiawa bi efa Islaam ho sɛdeɛ
ɛbaa wɔ quraan kronkɔn mo ene
ɔkomhyani Sunna mo so



أكاني

AL-ISLAAM

**enkyirekyire tiawa bi efa Islaam hɔ sɛdeɛ
ɛbaa wɔ quraan kronkron mo ene ɔkomhyani
Sunna mo nso.**

Nwoma a ɛdimɔ yie ene deɛ ekekaho efa wɔ Islaam enkyirekyire tiawa asekyire na ɛdaadi ekyire nefapim a ɛdimɔ ene nenimdie enkyirekyire ene nahoteɛ ɛfiri nenkyirekyire afapim ɛno neye quraan kronko ene ɔkomhyani sunna, ene nwoma enkyirekyire tiawa mo efa deɛ ɛso no nyinara ɛfiri musliminii ene deɛ ɔnye muslim ɛwɔ ɔmo kasa mo efa emmere mo ene biya mo efa deɛ ɛwɔ ho ene deɛ atwaakyia nyinara.

شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



جمعية الربوة



دار الإسلام

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.



Telephone: +966114454900



ceo@rabwah.sa




P.O.BOX: 29465



RIYADH: 11557



www.islamhouse.com



1. (eye esu mua a efra wo engyinaso a efiri quraan krɔnkɔ mo ene ɔkomhyani sunna mo)

Islaam eye Onyame kasa soma kasa ekɔ nipa nyinara nkyen, na eno neye Onyame krɔ soma kasa a antimtim na eye Onyame soma kasa a etwatoɔ ema adasamae Awurade kasa nyina ara:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28]

{ Islaam eye Onyame kasa soma ekwoɔ nipa nyinara enkye Onyame krɔnkɔ akase:(enye adee a yasoma wo agye se wokɔ wo nipa nyinara nkyen na woye anɔhɔba bɔ ene ɔkɔkɔ bɔfoɔ ema ɔmɔ na emom nipa dɔdɔɔ ennim } [Suura Saba'i 28]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا...﴾ [الأعراف: 158]

{IreAnɔbisɔ pe mo pe eyineniyan (ki e mɔ wipe) dajudaju Emi ni iranse Allah si gbogbo yin patapataSuratul} [Suura A'raf: 158]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ

لِللَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 170]

{Oh eye moɔ nipanom nokware somafoɔ aba mɔ mo ewɔ nokore mo efiri moɔ Awurade ho na mɔnya gyidie eno neye adepa ema mɔ,ena se mɔyi eye Onyame kaafiriya na nokware ɔnyame newɔ adee a ewɔ esoro nsu mo ene asaase mo, Na Onyame neye nimdienii yansawura.}

[Suura Nisaa'i :0170]

Islaam eye Onyame kasa soma ekɔ nipa nyinara nkyen na eno neye Onyame krɔ soma kasa a atimtim,na eye Onyame kasa soma a etwatoɔ ma adasamae Awurade ntem ena ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ ekaase:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40]

{ enye adee Məhwamməd eye moƿ mo krɔ papa efiri moƿ mbranteɛ yi mo na emom ɔye Onyame somanii ena akomhyafoƿ awieye, Na Onyame Allah efa biribiara ɔnim.} [Suura Al-Ahzab:40]

2- ena Islaam enye Nipa bi esom nkoaa anaa se edum bi nko,na emom eye Onyame esom ema nipa nyinara

Na Islaam enye esom nkoaa epɔ anaa se edum bi nkye na emom eye Onyame esom ema nipa nyinara ena ɔye dee ɔdekae a yahyeno efa quraan kasie yi mo eno neye nekasa krɔnko:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]

{ Oh eye mo nipa nom monsom mo Awurade dee ɔboƿ mo ene dee ɔmo ede mo anim ekae sedee mo besro Onyame } [Suura Baqara :21]

Na Onyame krɔnkonii No akase:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمْ اِرْجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]

{ Oh eye moƿ nipa nom monstro mo Awurade Nyame dee ɔboƿ mo efiri kiraa baako pe mo ena ɔboƿ neyire efirii nemo ena ɔpitee mberima dodoo efiri wɔnnom mo ene mmaa.} [[Suura Nisai: 1]

Hadiis a yeya efiri Ibun Umara Onyane npenie nka ɔmo nokore ɔkomhyani Onyame asomdwie nka no eyee hutuba ewo fatihu makka eda ena ɔkaase: << Oh eye moƿ nipa nom nokware nokore Onyame apam gyaahiliyya gyemisem afiri moƿso ena wakron efa magya nom na eye adea nipa nom akyemo mmienu: Papayenii sronii krɔnko ewo Nyame ho ena ɔbonienii sansaenii mmerɛ mmerenii ewo Onyame ho ena nipa nom ye Adam asenii ena Onyame neboƿ Adam efiri netee mo na Onyame akase:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]

{Oh eye moɔ nipa nom yenna yebɔɔ mo efiri mmerima ene mmaa ena ena ɔyee mo ɔmae ene abusua sedee mo behunu moɔ ho, Na nokore dee ɔdemo ewɔ Onyame nkye ne dee ɔsro me efiri mo mo, Nokware Onyame neye nimdienii yansawura.} [Suura Hujiraat: 13] Yeyaaye efiri Tirimizii ho (3270)

enye adea a wobanya ewɔ quraan krɔnkrɔn ahyedee mo anaa Okomhyani krɔnkrɔn Onyame asomdwie nka no ahyedee so mmera mo a ekɔ ema edom bi anaa fekwo bi ahwesɔɔ ewɔ wɔnnom ahyasee mu anaa wɔnnom edom mo anaa ɔmo abusua kuo mo.

3. Islaam eye Onyame kasa soma dee aba a yahye no ma, ema akomhyafoɔ somaye ene adekaefoɔ asomafoɔ ekɔ wɔ edom so Onyame asomdwie nka ɔmo.

Islaam eye Onyame kasa soma dee aba a yahye no ma, ema akomhyafoɔ somaye ene adekaefoɔ asomafoɔ ekwo wɔ edom mo Onyame asomdwie nka ɔmo:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالذِّكْرِينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَعَاءَيْنَا دَاوُدَ زُورًا﴾ [النساء: 163]

{Nokore yayi ayidie ama wo sedee yayi ayidee ama Nuh ene akomhyafoɔ efiri ɔmo akyi, ena yayi ayidee ama Ibrahiim ene Ismaeel ene Is-haaq ene Ya'aquub ene Asbaat ene Issa ene Ayyub ene Yunusa ene Haruun ene Suleyman, ena yama Daawood apam zabuura.} [Suura Nisaai: 163]

Na saa esom yi dee Onyame aye ama nesomanii Mohammed Onyame asomdwie nka no na eno neye esom dee Onyame ayenɔ mmera ama kanii akomhyafoɔ ena wahye wɔnnom wɔso Onyame krɔnko akase:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي

إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ [الشورى: 13]

{Yaye mmera ama mo wo esom yi mo dee yahye waha Nuh ena dee yayi ama wo ene dee yahye efa ha ye Ibrahiim ene Musa ene Issa, Se mantintim wo Nyamesom mo nma mo ntiti mantem ewa so, Abosomsomfoa aye akakabensem efa dee yefre wannonm ewa so, Onyame nayi efiri dee ope mo ena otini waso dee ope efiei dee openkye No).} [Suura Shoora: 13]

Na saa esom yi dee Onyame aye ama nesomanii Mohammed Onyame asomdwie nka no, na eno neye nokware ema nhoma a edikane wo Onyame nhoma mu tese (Atawratu ene Ingyiilu) ansa ensesae reba mu Onyame kronko akase:

﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ

بَصِيرٌ ﴾ [فاطر: 31]

{ Na dee yayi ama wo efiri nwoma no mu neye nokore a edi nokware efa dee ede nanim kae, Nokore Onyame efa nenkoa so oye yansanii eniwanii } [Suura :31]

4. eye akomhyafoa Onyame asomdwie nka wannonm mo esom eye baako ena mo mmera so ebabra: eye akomhyafoa.

Onyame asomdwie nka wannonm mo esom eye baako ena mo mmera so ebabra, Onyame kesie No akase:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَآخُكُمْ
 بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
 مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]

{Yasani nwoma ama wo wo nokware so edi nokore adansie ema dee edi nanim ekae efiri nwoma nom ene ahɔbaebo wɔso, Na di asem ewɔ wɔnnom ntɛm efa dee Onyame asani, Na ndi ɔmo akoma apedeɛ akyi ewɔ abra a nokore aba woso, Na ɔmo biara yaye ama ɔmo mmera ene enhyihyeɛ, Na se Onyame epe a nanka ɔyeɛ mo edom baako na emom ɔɔɔɔ ehwɛɛɛ efa dee aba mɔnkyɛ, Na senti mɔndi akansie dwumadie pa, Na Onyame nkyɛ na mɔrekwɔ mo nyinara na wabomo amanie efa dee na moɔdi akynie ensesaye.} [Suura Maaida: 48]

ena ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ ekaase: " Me na meye nipa mo kandifoɔ wɔ Issa Ibunu Mariyam so ewɔ wiase mo ene atamoada ene akomhyafoɔ ye anuanom efiri maamefoɔ ahodoɔ ena ɔmo esom eye baako. efiri Buhari nkyɛ (3443).

5. - Islaam efre - Sedee akomhyafoɔ nyinara efre: Nuh ene Ibrahiim ene Musa ene Suleyman ene Daawood ene Issa Onyame asomdwie nka ɔmo- ewɔ gyedie mo efa se nokore Awurade Nyame ɔmo neye Allaah ɔɔɔadeɛ ahɔyanii agyapadie Nkwanii ɔwuonii ahenfo mo hene ɔmo neye dee ɔdanidani.

Islaam efre - Sedee akomhyafoɔ nyinara efre: Nuh ene Ibrahiim ene Musa ene Suleyman ene Daawood ene Issa Onyame asomdwie nka ɔmo- ewɔ gyedie mo efa se nokore Awurade Nyame ɔmo neye Allaah ɔɔɔadeɛ ahɔyanii agyapadie Nkwanii ɔwuonii ahenfo mo hene ɔmo neye dee ɔdanidani dwumadie ahobrasie mo ɔmo neye timanii ɔdeefoɔnii:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعِمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3]

{Oh eye mo nipanom monkae Onyame adum wo mɔso, Senti yewo ɔbɔɔdee bi efiri Onyame Allah akyi ɔma mo ahɔya agyapadie efiri esoro ene asaase mo, Nokore obiara nneho agye ɔno, Na nokore ebesisen na ebesonbo ama ɔmo} [Suura :3]

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَبِّحُوا لِلَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

[31]

{Kase wae na ɔma mo agyapadie ahɔya efiri esoro ene asaase mo ɔbi wɔho a ɔkɔta asu ene ehunu eniwa mo, ena wae na ɔyi nkwa efiri ewuo mo ena ɔyi ewuo efiri nkwa mo, ena wae na ɔdanidani dwumadie ebranase, Na ɔmo ebe kase Onyame Allah, Na se kase senti mɔnsro ɔno} [Suura Yunus: 31]

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا

بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64]

{Senti wae na ɔbɔɔdee ahyasee ena enoakyi ɔdeno ebaaye bio wo ne wuo akyi, ena wae na ɔmamɔ agyapadie ahɔya efiri esoro ene asaase mo, Senti Awurade bi eka Allaah ho anaa, Kase monfa mɔngyinaso ɔbi mbra nase mɔye nokorefoɔ. } [Suura Naml: 64]

ena akomhyafɔɔ mo nyinara ene asomafɔɔ Onyame asomdwie nka wɔnnom yesomaa ɔmo efa afre Nyamesem ekwo wo Onyame nkoa nkoa ho, Onyame kesie akase:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ

مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾ [النمل: 36]

[النمل: 36]

{Na nokore mo yasoma ama edom biara asomanii se mɔnsom Allaah na mɔntwi mɔhɔ enfiri abosomsom hɔ,Na wɔnnom bi yeho deɛ Onyame atinino ena efiri ɔmɔ mɔ yeho deɛ yira atitim neso, Na senti mɔn nanti wɔ asaase yi so na mɔnhwe sedee akyniefoɔ atɔrɔfoɔ awieye epimye} [Suura Nahl: 36]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]

{ ena enye adeɛ yasoma ɔbi ewɔ wanim efiri somanii bi agye Nuh ɔkakyire wɔnnom nokore se ɔmɔ nɔ obiara nneho a ɔka neho nokware mo mo agye Me na mɔnsom Nɔ } [Suura Anbiyaa: 25]

Na Onyame abɔ amanie efa Nuh Onyame asomdwie nka nɔ se nokore ɔmɔ nɔ akase:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: 59]

{ Oh eye medom menkrufɔ mɔnsom Allaah na mɔnni Awurade adesom biara efiri nakyi na medee nokore mesro ema mɔ efa asotwie ewɔ eda kesie.} [Suura : 59]

ena Onyame adanfɔ Ibrahiim Onyame asomdwie nka nɔ - Sedee Onyame abɔamanie efa neho- Nokore ɔmɔ nɔ erekaase:

﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[العنكبوت: 16]

{ ena Ibrahiim kae wɔ mmere a ɔkakyire nedom se mɔnsom Allaah na mɔnsro nɔ, Saa nɔ neye adepa ema mɔ nase eye adea nka mɔnim a.} [Suura Ankabut: 16]

ena Saalah Onyame asomdwie nka nɔ - Sedee Onyame aka nasem wɔhɔ:

﴿وَالِى تَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا قَالَ بِقَوْمٍ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذُرُوهَا تَأْكُلْ فَيَأْرِضَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأعراف: 73]

{ɔkaase Oh eyɛ

medom mɔnsom Allaah na mɔnni adesom biara eka neho nakyi, Nokore engyinasoɔ aba mɔnkyɛ efiri mɔ Awurade ho, Saa wai neye aboa naaqa Allaah sankyireni ema mɔ, Na mɔngyae na ɔndi di wɔ Onyame asaase so, ena nma mɔ enfa ehao biara enha nɔ na asotwie yayaaya aba mɔsu.} [Suura : 73]

ena Shuaib Onyame asomdwie nka nɔ - Sɛdee Onyame aka nasem wɔho:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 85]

{Oh medom menkrufoɔ yi mɔnsom Allaah na enye adee mɔho adesom bi efiri nakyi, Nokore me de nokware engyinasoɔ pefee afiri mɔ Awurade ho abre mɔ, Na senti mɔnhyɛ ensenua no ema ene ensusuyɛ, ena Nma mɔ ntesu mma nipa nom dwumadie ena nma mɔ sei asaase yi ewɔ nensiesie akyi, Saa nɔ eyɛ adepa ema mɔ na sɛ mɔoyɛ agyediefɔɔ a.} [Suura 85: 85]

ena dee ɔde kan a Onyame kasa neho neye Musa Onyame asomdwie nka nɔ, ɔkrɔnkɔnii akase:

﴿وَأَنَا أَحْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنَّتِ أْنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 13-14]

{ ena Me mayi wo na senti tee efa dee eyɛ ayedee yekyire (13) Nokore Me na meye Allaah obiara nneho nokore mo agye Me senti mɔnsom Me ena mɔnfrɛ Nyame Salaat efa nekae mo (14)} [Suura Taha 13-14.]

ena Onyame Allaah ebɔamanie wɔ Musa Onyame asomdwie nka nɔ nokore ɔnɔ ɔsere entwitwagyie efiri Onyame ho na ɔkase:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (٢٧)

[غافر: 27]

{ Nokore me mesere entwitwagyie efiri me Awurade ho efiri obiara a ɔye akesisemnnii ɔnne gyedie nfa akwɔntabuo eda.} [Suura Gaafir :27]

Na Onyame abɔ amanie efa Masiihi Issa Onyame asomdwie nka nɔ se nokore ɔnɔ nɔ akase:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ (آل عمران: 51)

{ Nokore Onyame Allaah neye me Awurade ene mɔso Awurade,Na senti mɔnsom Nɔ, Saa yi neye ekwan tinie a atimtim } [Suura Al-Imrana 15]

Na Onyame kesie tumifoɔ abɔ amanie efa Masiihi Issa Onyame asomdwie nka - biom- nɔ se nokore ɔnɔ nɔ akase:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أَنْصَارٍ﴾ (المائدة: 72)

{Oh eye mɔ banii israaifoɔ mɔnsom Onyame Allaah me Awurade ene mɔso Awurade, Na nokware deɛ ɔnɔ obesom abosom npatahɔ aka Onyame Allaah ho no na nokware Onyame Allah aye asorohemaa algyannah akyirewadeɛ ewɔ neso, ena egyamo neye tinabrɛ, ena enye adeɛ ɔdebonieyanii ɔsisinii ebeya aboafɔɔ biara.} [Suura Maaida: 72]

Na emom empo attawora ene Injeela ebaa ewom a atimtim Onyame som nkoa na nokore aba wɔ Musa kasa nantie nkafoɔ mo Onyame asomdwie nka nɔ:(Oh Israail tie yen Awurade ye adesom krɔ pɛ)Na aba entimtimye so efa tawoheed nimdie wɔ injeela mark nwoma mo ewɔ mmerɛ a masiihi Issa ekaase:(Nokore samansew a edikae neye: Oh Israail tie yen Awurade ye adesom krɔ pɛ).Onyame Allaah ɔtumifoɔ ɔkesie wadani adi se nokware komhyafɔɔ nyina ara ye de adekesie a

edemo na yasoma efa saa so eno neye efre eko tawoheed nimdie, Onyame kesie akase:

﴿وَلَقَدْ بَعْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾ [النحل: 36]

{Na nokore mo yasoma ama edom biara asomanii se mansom Allaah na montwi mcho enfiri abosomsom ho, Na wannon bi yeho dee Onyame atinino ena efiri cmo mɔ yeho dee yira atitim neso, Na senti mon nanti wo asaase yi so na monhwe sedee akyniefow atorɔfow awieye epimye.} [Suura Nahl: 36]

Na waka se:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَتُتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّن عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

{ Kase se monkakyire me dee moɔfre wannon wo Onyame akyi no monkyire me den adee na cmo abo wo asaase so anaa se cmo ewo dee cka Onyame ho ewo esoro nsu mo ene monfa nwoma bi nbre me efiri ansaana saa yi akyi anaa se nimdie bi akwan nase moye nokwarefow} [Suura Ahqaaf: 4]

Hyaikh Saadii Onyame ahunumobro nka no akase:(Na hunu se abosomsomfow akyniedie ewo wannon mmataye mo a engyinaso biara anaa nokore biara nka ho, Na emom cmo etwire

wannon adwenedwene atorɔ,ene adwenekyere fii ene adwene seiyye ekyire wo neseiyye atitim atwaakya ena cmo adi wannon nimdie ene cmo dwumadie ene cmo ensusuye ehunu wo mmerɛ mo efiri cmo nfie afaanim efa cmo som senti aba nfaso ama wannon anaa(eye saa adea yeasom cmo efiri Onyame akyi) koraa ewo wiase mo anaa wo atamoda awieye da?)Nwoma Taesiirul Kareem Almannaan: 779

6. Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔno neye ɔɔadee ɔno neye dee ɔfata efa ɔsom nkoa na yensom obi nka neho koraa nakyi.

Allaah ɔno neye dee ɔfata nokore se ebɛsom no nkoa ena yenfa obi nka neho efiri nakyi Onyame Allah kesie akase:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: 21-22]

{ Oh eye mo nipa nom monsom mo Awurade dee ɔɔɔ mo ene dee ɔmo ede manim ekae sedee mo besoro(21) Dee ɔye asaase kete emaa mo ena esoro so eyee edae ena ɔsanii nsuo ena eyee nnɔbaye emaa mo eye mo agyapadie, Na nma mo yen Allaah dodɔ ewɔ abraa monim (22).} [Suura Baqara: 21-22]

Na dee ɔɔɔ ye ene edom a ede yanim kae ena ɔye asaase kete emaa ye ena ɔsanii yesu nsuo efiri soro nsuo ena yaye efiri mo nnɔbaye emaa mo eyee agyapadie emam; ɔno nafata nokore efa nesom nkoa ena wakase okesie:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾﴾ [فاطر: 3]

{Oh eye mo nipanom monkae Onyame adum wo mo so, Senti yewɔ ɔɔɔɔde bi efiri Onyame Allah akyi ɔma mo ahɔya agyapadie efiri esoro ene asaase mo, Nokore obiara nneho agye ɔno, Na nokore ebɛsisen na ebɛsɔnɔ ama ɔmo} [Suura :3]

Na dee ɔɔɔadee ena ɔma agyapadie ɔno nefata nokore efa nesom nkoa na ɔkesee wakase:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٣﴾﴾ [الأنعام: 102]

{ Saa wae neye Allaah mo Awurade, obiara nneho nokore eka neho agye owo nkoa, owo nebowo biribiara na senti monsom no, ena owo na biribiara etwire no.} [Suura An'aam:102]

ena adee biara a yesom no Onyame akyi enye adee ofata nokware mo esom, efise nokore enye adee owo ebetumi akuta adekitua ensesow wo esoro anaase dee ewo asaase mo ena Onyame onne npataho biara efiri beebiara anaa dee oka neho anaa dee oboa no, na adentira na owo efre obi eka Onyame eho anaase oye obi eka neho, okesie akase:

﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾﴾ [سبا: 22]

{Kase monfre dee modwene owo ho efiri Onyame akyi, enye adee owo ebetumi akuta adekitua bi a ensesow a etise netie wo asaase mo anaase ewo esoro nsu mo ena enye adee owo ewo emo efiri npataho ena enye adee owo ewo efiri mo aboanii biara.} [Suura Saba'i: 22]

Onyame ahotienii okesie owo neye dee owow saa abodee yi nyinara ena ode owo ebaaye ewo abraa wonnom nneho ekyire ngyinasow wo se owow ho etiasse ewo adee wabow mo ene nekroye, Onyame kesie no akase:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ تَأْنٍ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾⁽²⁰⁾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ⁽²¹⁾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدِينَ كَمَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ⁽²²⁾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ⁽²³⁾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوَافًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ⁽²⁴⁾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ⁽²⁵⁾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ⁽²⁶⁾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽²⁷⁻²⁰⁾ [الروم: 20-27]

{ efiri me sankyireni nom bi ne se me mabo mo afiri netee mo ena enoakyi mo madani nipa nom a dee yapeti mo (20) efiri Onyame sankyireni nom bi nom ne se abba cyire efiri yemo sedee ye ne omo ebada ena cyee mಂತemo edo ene ahunumobro, Nokore ewo saa sankyiyi mo eye awhawhasem edema edom a omo edwene (21) eka Onyame sankyireni nom bi se abba esoro ene asaase ene ensesaye kasa ketereama ene mofoni, Nokore ewo saa yi so eye sankyireni ede ma adasamae (22) efiri Onyame sankyireni nom bi ne monda ewo anadwo ene adekyee ena mo de etwetwe efiri me adom mo, Nokore ewo saa yi mo eye sankyireni edema edom a omo etee (23) sankyireni nom bi omamo ehunu ebo aheramo ebo mo hu esro ene akutataye ena wasani nsuo afiri esoro na ema asaase fum nkwa ewo newuo akyi, Nokore efiri saa yi so eye sankyireni edema nkrufo a omo edwene (24) eka Onyame sankyireni nom bi ne se omaa osoro ene asaase egyinah ewo nenhyihyee mo, Na enoakyi na yafre mo enfreye prekore afiri asaase mo na saa mmerere no na mo repuepue afiri mo (25) ena omo na owo adee biara a ewo osoro nsu mo ene asaase mo, Nyinara no wonnom ebra omo ase ema no (26) ena omo neye dee ode abodee ebaaye ena

enoakyi ɔsaade ekwɔɔye ena ɔno nɔ eye adee eemeɛ ema nɔ) [Suura Ruum: 27]

Na Namurood ɛpɔɔ Onyame ɛwɔ ho na Awurade ena Ibrahiim ekaase Onyame asomdwie nka nɔ sɛdeɛ Onyame ɛrebo ho amanie efa ho:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَهَمَ فِي رِبِّهِ ؎ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبرَهَمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِيءُ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِءُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبرَهَمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾﴾ [البقرة: 258]

{ Ibrahiim akase na nokware Onyame Allaah ɔde awia ɛfiri aɛɛye ekwɔ atɔye na fa firi atɔye ekwɔ aɛɛye ena deɛ ɔye kaafirinii nɔ ɛyɛɛdeen fɛrɛɛ mo, Na Onyame Allah ɔntini ɛdom akyiniedifoɔ asesie.} [Suura Baqara: 258]

ena saa ara so na Abraham Onyame asomdwie nka nɔ ama ngyinasoɔ wɔ nenkrufɔɔ so efa nokore ɔno naye deɛ ɔtini nɔ ene wama nɔ aduane ene nsuo enum ena se ɔyare a ɔma nɔ apɔtie ena ɔno neye deɛ ɔbekum nɔ na wama nɔ nkwa, Na sɛdeɛ Onyame abɔ ho amanie wakas:

﴿الَّذِي خَلَقَ فَهُوَ يُهْدِي ۗ وَالَّذِي هُوَ يُضِلُّهُٓمْ وَسَقَمِهِ ﴿٧٨﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٧٩﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾﴾ [الشعراء: 81-78]

{(Deɛ ɔboɔ me na ɔno na ɔbetini me (78) Na ɔno neye deɛ ɔma me aduane ena ɔma me nsuo num (79) ena se meyare a ɔno na ɔsame yarie apɔtee (80) ena ɔno ne deɛ ɔbekum me na enoakyi wama me nkwa (81) } [Suura Shu'araai: 78- 81]

Na Onyame Allaah abɔ amanie efa Musa Onyame asomdwie nka nɔ se nokore ɔne firuana adi akyinie pɛrɛkwɔpɛ ena Moses kakyirɛ nɔ se: Nokore me Awurade ɔno neye:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ۖ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾﴾ [طه: 50]

{ Deɛ ɔma nabodeɛ biara deɛ ɔpɛ na enoakyi na watini nɔ.} [Suura Taaha: 50]

Na Onyame abrease biribiara efa deɛ ɛwɔ esoro nsu mo ene asaase ede ama nipadasenii ene deɛ atwahyia adum nyinara; Sɛdeɛ ɔno

ɛbesom Onyame Allaah na ɛnye adee a ɔmɔ ɛbeyɛ nɔ kaafiriya, Onyame kɛsie akasɛ:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾﴾ [لقمان: 20]

{Asenti mɔnhwe nhunu sɛ nokorɛ Onyame abrease ama mɔ ɛfa adee biara ɛwɔ ɛsoro nsu mo ene deɛ ɛwɔ asaase mo ɛna wapeti ama mɔ naadum pɛfɛɛ ene deɛ asoma awinta, Na ɛfiri nipa nom bi deɛ ɔdeakyinie wɔ Onyame hɔ ɛwɔ abraa nimdie biara nnim anaase tineɛ anaase Nyame nwoma ɛhae.} [Suura :20]

ɛna sɛdeɛ Onyame abrease ama nipa ɛfa adeɛ biara a ɛwɔ ɛsoro nsu ene asaase na nokorɛ ɔbɔɔ nɔ ɛna ɔyɛ ahɔboɔ ɛfa adeɛ biara a ɛhia ma no wɔ deɛ ɔpɛ biara ɛfiri aso ene ɛniwa ɛhunu ene akuma sɛdeɛ ɔde besua nimdie deɛ yɛ nfasɔɔ ɛma nɔ na ama nɔ adwen ɛfa ne boafɔ ɛna deɛ ɔbɔɔ nɔ, Onyame kɛsie nɔ akasɛ:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل: 78]

{ ɛna Onyame Allah ɔnɔ na ɔyɛɛ mɔ ɛfiri mɔ maame mo yafɔno mo na ɛnye adeɛ

mɔnim biribiara koraa ɛna ɔmaa mɔ asuteɛ ene ɛniwa ɛhunu ene akuma, Na sɛdeɛ etie biara mɔ bɛdaase.} [Suura: 78]

Na Ahoteenii no Onyame kɛsie nokorɛ wabɔ biribiara wɔ wiase mo ɛna wabɔ nipa ene wayɛ ahɔboɔ ɛfa biribiara ɛdeɛ ɔpɛ etwihwe wɔhɔ ɛfiri deɛ ɛkikahɔ ene tumi so ɛnoakyi na yama nɔ ɛmmɛrɛ ɛfa deɛ ɛbeboɔ nɔ ɛwɔ ɛntimtimyɛ ɛfa Onyame Allaah ɛsom ene wiase mo anamɔtuɔ ɛnoakyi ɛna wabra ase ama mɔ ɛfa adeɛ biara a ɛwɔ ɛsoro ene asaase mo. Onyame de sɛdeɛ wabɔ saa abɔdeɛ kɛsie yi dodoɔ aye ngyinasɔɔ ɛfa nebaako pɛ ho a ɛrekyerɛ sɛ nyamesom wɔ no, na wakasɛ ɔkrɔnkɔnii ɔkɛsie:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

{Kase wae na ɔma mo agyapadie ahɔya efiri esoro ene asaase mo ɔbi wɔho a ɔkɔta asu ene ehunu eniwa mo, ena wae na ɔyi nkwa efiri ewuo mo ena ɔyi ewuo efiri nkwa mo, ena wae na ɔdanidani dwumadie ebranase, Na ɔmo ebe kase Onyame Allah, Na se kase senti mɔnsro ɔɔ} [Suura Yunus: 31]
ena waka nɔkware ɔkrɔnkɔnii:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَئِتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

{ Kase se mɔnkakyire me dee moɔfre wɔnnom wɔ Onyame akyi no mɔnkyire me den adee na ɔmo abɔ wɔ asaase so anaa se ɔmo ewɔ dee ɔka Onyame hɔ ewɔ esoro nsu mo ene mɔnfa nwoma bi nbre me efiri ansaana saa yi akyi anaa se nimdie bi akwan nase mɔye nokwarefoɔ.} [Suura Ahqaaf: 4]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِعَبْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [لقمان: 10-11]

﴿خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [لقمان: 11]

{Wabɔ esoro nsu ewɔ abraa afapim nkahɔ na moɔ hwe yi ena ɔtuu aboɔ etuu asaase so se ebetintim ada ho amamɔ ena ɔpitee ewom aboa biara, ena ɔsanii ye efiri mo nsuo a efiri esoro na afifi ayani ewom adee biara eyefe edimo, Saa wai neye Onyame Allaah abɔdee na mɔnkyire me deen adee na ɔmo abɔ dee moɔsom wɔnnom efiri Onyame akyi, Na emom akyiniediefoɔ ɔsisifoɔ wɔ yira pefee mo.} [Suura Luckman: 10 - 11]

ena waka nokware okronkonii:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ

عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الطور: 35-37]

{ Anaa Asenti wannonom abo biribi kitua bi efiri Onyame akyi anaa se omoo no yeboo omoo (35) Anaase wannonom neboo osoro nsu ene asaase anaa emom nokore omoo enya gyidie ntintim (36) Anaase wannonom neho wo Awurade ahoya agyapadie safoa anaase omoo nom yenna yekuta wannonom adanidani mo (37) [Suura Tuur: 35 - 37]

Hyaikh Sa'ad akase:(ena saa engyinasoo yi ewo wannonom so efa tumi ahyedie a omoo ntumi nkuta ewom biribiara wawo agye se omoo ede omoo ho ema nokore anaase omoo gyae dee eye nhye efiri adwene ene esom)Tafseer Ibn Sa'adii: 816

7. Onyame Allaah owo neye obodee efa biribiara dee wo wiam efiri dee yehunu ene adee biara a dee ye abodee efiri adee a wabo ena Onyame Allaah wabo osoro nsu ene asaase ewo eda nsia mo:

okronkoni Onyame Allaah owo neye obodee efa biribiara dee wo wiam efiri dee yehunu ene adee biara a dee ye abodee efiri adee a wabo ena Onyame Allaah wabo osoro nsu ene asaase ewo eda nsia mo, Onyame kesie no akase:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ

الْقَهْرُ ﴿١٦﴾﴾ [الرعد: 16]

{Kase wae neye esoro nsu ene asaase Awurade omoo kase Onyame Allaah, Kase senti mafa wannonom efiri aboafonii akyi na omoo ntumi nkuta efa

omɔ kiraa bi nfasoɔ anaase ehao, Kase senti enifranii ene eniwa ehunu ebeye pe, anaase esum ene ehae enhyirene ebeye pe, anaase omɔ aye aka Onyame ho nptahɔ obɔadee sedee wabo nabodee na nabodie no eye omɔ se etisa anaa, Kase Onyame Allaah neye obɔadee efa biribiara ena omɔ neye baako pe okum ebrease.} [Suura Ra'ad :16]

ena Onyame kesie akase:

﴿...وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]

{ " ena wabo abodee dee monim."} [Suura Nahl : 18]

ena Onyame nabɔ esoro nsu ene asaase ewɔ eda nsia mo, Onyame kesie akase:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: 4]

{omɔ neye dee obɔ esoro nsu ene asaase ewɔ eda nsia mo enoakyi ena oyee pɛpɛe ewɔ arɔhyi so'mpa ahenie' omim dee ewura ewɔ asaase mo ene dee erepɛe efiri mo ene dee eresani afiri osoro mo ene dee erekwo ewom, ena omɔ neye dee aka mɔho beebiara a mɔho, ena Onyame efa dee mooye biara eye nanim ohunu.} [Suura Hadid :4]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: 38]

{ ena nokware mo yabo esoro nsu ene asaase ene dee ewɔ emo ntem ewɔ eda nsia mo ena enye adee a ehao bi akaye efiri bre mo } [Suura Qaf: 38]

8. ena Onyame Allaah ahɔtienii ɔkesie ɔnne npatahɔ wɔ netumi mo ene adebɔ mo anaase nedani dani mo anaase nesom hɔ.

ena Onyame Allaah ɔkrɔnkɔ ɔkesie ɔnɔ neye Ahene mo hene tumi wura enye adee ɔbi eka neho npataye mo ewɔ nadebɔ mo anaase netumi mo anaase nedani daniye mo, Onyame Allaah ɔkrɔnkɔ akase:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي

السَّمَوَاتِ أَتُتُونِي بِكُتُبٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ [الأحقاف: 4]

{Kase se mɔnkakyire me dee moɔfre wɔnnom wɔ Onyame akyi no mɔnkyire me den adee na ɔmɔ abɔ wɔ asaase so anaa se ɔmɔ ewɔ dee ɔka Onyame hɔ ewɔ esoro nsu mo ene mɔnfa nwoma bi nbre me efiri ansaana saa yi akyi anaa se nimdie bi akwan nase moye nokwarefoɔ.} [Suura Ahqaaf: 4]

Hyaikh Saadii Onyame ahunumɔbrɔ nka no akase: {kyire se : {Kase} efa saa nkrufɔ yi dee ɔmɔ aye mpatahɔ eka Onyame h anaase abosom ene adesom dodɔ na wɔnnom ntumi nkuta nfasoɔ bi nma ɔmɔ anaase ehao bi anaase ewuo bi anaase nkwa bi anaase yaniya, Kakyire ɔmɔ - pefee ɔmɔ antumi anaase ɔmɔ abosom ena nokore ɔnɔ no enye adee ɔfata koraa efa efiri esom: { mɔnkyire me dee benna ɔmɔ abɔ wɔ asaase so anaase wɔnnom ho tumi npatahɔ bi ewɔ ɔsoro mo } Senti ɔmɔ abɔ nuama nom bi kitua a ewɔ ɔsoro mo anaa?Senti wɔnnom abɔ apepɔ anaa? Asenti wɔnnom abɔ nsuo tinee bi anaa?Asenti ɔmɔ abɔ apite mmua anaa?Asenti ɔmɔ ama ndua afifi anaa? Asenti ɔmɔ eboa Onyame ewɔ nadebɔ kitua bi efiri saa so anaa?biribiara asem ye nneho efa ɔmɔ ntimtmye efa ɔmɔ hɔ adom wɔ ɔmɔ akyi,na saa wae neye engyinasoɔ adwene nokware pefee mo ewɔ adee a biara ɔde neho etutu Onyame Allah na nesom eye atɔro fii seiyye.enoakyi wakeka engyinasoɔ ema eya na wakase : { Mɔnbre Me nwoma bi efiri saa yi so ansaana} Nwoma a efre ekwɔ mpatahɔ { Anaa anamotuo bi efiri nimdie mo } ɔmɔ ede adidie bi efiri akomhyafɔ mo yahye wɔnnom wɔ hɔ efa saa so, efiri dee yenim mo se nokore wɔnnom antumi anfa nba wɔ baako pe mo efiri akomhyafɔ wɔ engyinasoɔ ekyire saa so na emom yegyeto etimtim

so se akomhyafoɔ nɔ nyinara efre ekwoɔ ɔmo Awurade nimdie tawoheedi so ena ɔmo ebra efiri wɔ abosomsom ho ewɔ ho ena eno nasu efa deɛ ediakwɔtini wɔnnom so efiri nimdie mo)Tafseer Ibn Sa'adii: 779

ena Onyame Allaah akɔrɔnkɔ akɛsie ɔno neye ɔhene mo hene tumi, ɔnne obi a aka neho ewɔ nahenie, Onyame kɛsie nɔ aka se:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُكِّيَّةِ نُوْتِي الْمُلْكِ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]

{Kase ɔnyankrɔɔɔn ɔhene mo hene ɔde nahene ema deɛ ɔpe ena ɔgye nahenie efiri deɛ ɔpe ena ɔma tumi wɔ deɛ ɔpe ena ɔbra ase efiri deɛɔpe mo,efa wonsam na adɛpa eho, Nokore wo na enhyihyeye tumi biara eho} [Suura Al-Imrana :26]

Na Onyame Allaah akɛsie aka pɛfɛɛ mo se nokware nahenie ahyema ama nɔ atamoada:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]

{" edaa wɔnnom eda ho pɛfɛɛ, enye adeɛ biribi bi ebewinta wɔ Onhyame efiri wɔnnom mo koraa, efa saa eda yi wae naho ahenie tumi ndɛdaɛ,eye Onyame Allaah nkoaa krɔpe na akum mo abremase.} [Suura Ghafir: 16]

ena Onyame Allaah ahɔtienii akɛsie ɔnne npataho wɔ netumi mo ene adebo mo anaase nedani dani mo anaase nesom ho, Onyame kɛsie akase:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111]

{" ena kase aseda nyinara ewɔ Nyame ho deɛ ɔnne eba ena enye adeɛ a ɔbi eka neho ewɔ nahenie mo ena enye adeɛ ɔho aboafɔɔ bi efiri ehao abrasie,ena tumtum nɔ atumtumye kɛsie. } [Suura Israail: 111]

Na Onyame kṛonkṛonii Nṓ akase:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ

كُلَّ شَيْءٍ عَفْوَ فَكَذَرَهُ تُقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2]

{ Deɛ ɛye nedee ewo nɔ esoro nsu ene asaase ena enye adee a ewo eba ena onne obiara a oka neho ewo nahenie mo ena onɔ neboɔ biribiara ena ɔye nenhyihyeɛ ewo neso nhyihyeɛ.} [Suura Furqaan : 2]

onɔ neye ohene ena enye adee a obi ewo ahenie agye onɔ okṛonkṛonii diya onɔ neye obɔadeɛ ena adee biara a ede hene eye nediya ena onɔ neye dee obre ase enhyihyeɛ ena dee ɔwo saa tebia yi mo na efata ema nɔ nesom ena esom efiri nakyi esote ewo adwene mo ena abosomsom ye seiyye edema wiase ene awieye da, Onyame kesie akase:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: 135]

" ena wonnom ekaase mondani jew nee anaase akistofɔ na mo betini, Na emom Abraham ekwan neye trɔduoo nokore, ena enye adee ɔye abosomsomnii..} [Suura Baqara :135]

Na Onyame kṛonkṛonii Nṓ akase:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]

{ Na hwan na esom sompa sene Obi a ɔbe bere n'anim ama Onyame na ɔye dwuma pa na onam Abraham kwan tenenee soɔ, Na Onyankɔɔn ayɛ Abraham ne dɔfo..} [Suuratu An-Nisa 125]

ena wadanidi pefee nokware mo okṛonkṛon se obiara obede ekwan bi akyi afiri madanfɔ Abraham ekwae no Onyame asomdwie nka nɔ na nokware nadwene mo ekanɔ nekiraa, Onyame kesie akase:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي

الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130]

{ Na Obibiara mpo Abraham kwan no gye Obi a onnim nekera gyenabere, Nokware ye ayi no ahye no animonyam wo wease yi mu, Na esipi se atemmuada nso oka apapafo ho.} [Suuratu AL-Bakara 130]

9. ena Onyame okronkonii onne ba ena yenwuu no ena enye adee ye de no etutu obi anaase ensesoo bi.

ena Onyame okronkonii onne ba ena yenwuu no ena enye adee ye de no etutu obi anaase ensesoo bi, okronkonii nokoreonii okesie akase:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا

أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 4-1]

{ Kase onoo Allaah nye krɔpe (1) Allaah na obiaara edaa no erehwihwe efiri (2) onne ba ena yen wuu no (3) ena enye adee a ede No etutu biribi ye ensesoo mo (4). [Suura Ikhlas :1- 4]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝﴾

[مریم: 65]

{ esoro nsu ene asaase ene adee biara a eho emo ntem Awurade Nyame enam senti monsom No na monsi abotire wo nesom ho, Asenti mo mati efa nediin ho da } [Suura Maryam : 65]

ena nokware okesefoo aka se:

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ

فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]

{ Dee odo esoro nsu ene asaase ebaaye, ena waye mo mo yire ene kono ena efiri emmoa mo so yire ne kono, okaa mo woho, enye adee a ewo ensesoo bi koraa, onoo nye asutie ene eniwa ehunu.} [Suura Shora: 11]

10. ena Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔnfata biribiara koraa ena enye adee a ɔye honam mo koraa efiri nabɔdee mo.

na Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔnfata enye nma no biribiara koraa anaase ɔbedani honam awura wɔ nabɔdee mo

ena biribiara nneho a yede etutu no koraa; efise saa no nokware Onyame Allaah ɔno neye ɔbɔadee ena deɛ ɔtise saa no ɔye deɛ yabo no ena ɔwɔ akyire ena deɛ nemmere mo ebefiri ho adeɛ biara ebefiri ho, na ɔno neye ɔhene ɔtomifoɔ ɔno nakuta tumi biara ena biribiara nfata nma Onayme ewɔ efiri nabɔdee mo ena biribiara nfata Onyame efiri nabɔdie mo wɔ nesu mo sɛdie ɔtee ɔkrɔnkɔnii ena Onyame ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔso esine biribiara ena ɔbrɔ kesie mo efiri biribiara mo, Onyame kesie ɔpo obiara a ɔdwene se nokore mo ɔfata masiihi Issa (yesu jesus):

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (المائدة: 17)

{Nokore mo paa waye kaafiriya deɛ ɔno ekaase nokore Onyame Allaah ɔno neye Yesu Issa Marry ba, Kase na whae na ɔkuta tumi ahennie efiri Onyame ho nase ɔpese ɔsei ekum issa marry ba ene nemaame ene deɛ eho efiri asaase mo nyinara mo, Onyame ho na tumi ahennie esoro nsu ene asaase ene deɛ ewom nyinara eho, ena ɔbo deɛ ɔpe, ena Onyame naho tumi ewɔ adee a biara so nhyihyeyee..} [Suura Maaida: 17]

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١١٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَّهُ قٰنِیْنٌ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضٰی اٰمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ ۗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾﴾ (البقرة: 115-117)

{ ena Onyame Allaah na apeeɛe ene atɔye eye nedeɛ, senti beɛbiara a mohɔ mɔndani manim mɔntumtum Onyame animuoyam, Nokware

Onyame Allaah nenimdie mo ebae (115) ena wɔnnom ekase Onyame Allaah eho ba, Ahotee eho Onyame , deɛ bi da ɔno neho esoro nsu ene asaase, biribiara ebrenase ema No (116) Deɛ ode osoro nsu ene asaase edebaaye nfitiasie mo, ena se ɔrehye biribi tumi a na deɛ oka nese ye ho na aye ho (117) } [Suura Baqara: 115 - 117]

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٩ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْسَقُ ۗ الْأَرْضُ وَتَجْرِ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۗ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۗ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَا الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۗ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۗ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۗ﴾ [مريم: 88-95]

{ ena ɔmo ekase Ahunumobɔ hene eho ba (88) Na nokore mo de ade fɔfɔ bi aba (89) Akase esoro nsu ene ati ato wɔ wɔnnom su ena asaase so adwedwa apae ena apipɔ so abubu agɔfum prekwɔpe bɔkwɔɔ (90) Se ɔmo ekase Onyame Allaah Arahaman eho ba (91) ena enye adeɛ efata se Onyame Arahaman ebaho ba (92) Agye se adeɛ a biara ewɔ osoro nsu mo ene asaase mo aba Onyame Arrahaman ho atamoadana na ɔye akoo (93) Na nokore yatworo adeɛ biara a ɔmo aye ena yayehɔ ahɔboa ema wɔnnom (94) ena wɔnnom nyinara ebaba atamoadana baako baako (95). [Suura Maryam : 88 - 95]

Na waka se:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمَةٌ ۗ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: 255]

{Onyame Allaah ɔbiara nka neho nokware mo agye ɔno neye nkwa a ɔtim ho daa, enye adeɛ a ɔtonkuo anaase ɔda, ɔno neho deɛ ewɔ osoro nsu ene deɛ ewɔ asaase mo, whae neye deɛ ɔma npataye eho nenkye agye efa nepe, ɔnim deɛ eho nanim ntem ene deɛ eho nenkye mo ne nakyi, ena enye adeɛ biribi be

atwahyia efiri nenimdie mo agye deε ɔpe, ena akonya kursiyu etere bae esoro ene asaase, ena enye adeε biribi be ebɔnehobae, ena ɔno neye ɔkwɔkrokwo kesie.} [Suura Baqara :255]

Na deε wae neye nedwumadie ena saa whae dwuma yi neye ɔbɔadeε na ebeye dena efata efiri wɔnnom bi? anaase ɔbefa no se ɔho ba? anaase ɔde ɔbi ebeka neho abɔdeε?

11. Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔno neye timanee ɔdeεfoɔnii ema nenkoa enam senti ena ɔsoma asomafo ena ɔsanii nwoma.

ena Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔno neye timanee ɔdeεfoɔnii ema nenkoa, Na deε ɔye ahunumobrɔ neε ema nenkoa nti ena wasoma wɔnnom asomafo ena wasani nwoma ama ɔno; Sedeε ɔbeyi ɔno afiri esum kaafiriya mo ene abosomsom erekwo nhyirenii Onyame krɔ pe nimdie tawoheed mo ene tinie mo, Onyame kesie akase:

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ

بِكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾ [الحديد: 9]

{ ɔno neye deε ɔsani wɔ nenkoa so aaya sankyireni pefee se deε ɔbeyi ɔno afiri esum mo awura ehae nhyirenii mo, ena nokore Onyame efa mo ɔye timanee ɔdeεfoɔnii..} [Suura Al-Hadid: 9]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾﴾ [الأنبياء: 107]

{ ena enye adea yasoma wo agye se wobeye ahunumobrɔ ama adasamma..} [Suura Al- Anbiya'a : 107]

ena Onyame ahye nekomhyanii efa se ɔɔbo amanie nkyire nenkoa efa se nokware ɔno neye bonifakyenii ahunumobrɔ ɔdeεfoɔnii, na Onyame kesie akase:

﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾﴾ [الحجر: 49]

{ Kakyire Menkoa nom se nokore me na meye bonifakyenii ahunumobrɔ ɔdeεfoɔnii..} [Suura Hijr :49]

ena wo nadom ene nahunumobro mu wo na oye moso ne chao efiri Nipa so ena wo nasani nhyira pa wo nenkoa so, Onyame Allaah kesie akase:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ

بِهِ مَنِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107]

{ " ena se Onyame ede moso ehao bi eka wo a na obiara nneho a obetumi aye afiri woso agye wo, ena se oye wo ne adepa a enye adee a obi ebetumi apam efa naadom,so nenkoa mo hwe nensohwe efiri dee oye, ena wo neye bonifakynii edeefoonii"} [Suura Yunus: 107]

12. Onyame Allaah wo neye Awurade odefo hene wo neye baako pe dee obebon nenkoa akwontabuo atamoda ewo emmere a yebeyani obiara afiri adakamina mo na oma obiara aketua efa dee wadi efiri adepa mo anaase bonee moso mo,na dee obe di dwumadi pa na oye ogyedienii na cho adom a atimtim ena dee waye kaafiriya ena wadi dwumadie bone ene cho asodwie kesie ewo awieye da atamoda.

Onyame Allaah wo neye Awurade odefo hene wo neye baako pe dee obebon nenkoa akwontabuo atamoda ewo emmere a yebeyani obiara afiri adakamina mo na oma obiara aketua efa dee wadi efiri adepa mo anaase bonee moso mo,na dee obe di dwumadi pa na oye ogyedienii na cho adom a atimtim ena dee waye kaafiriya ena wadi dwumadie bone ene cho asodwie kesie ewo awieye da atamoda, Na dee wahyema Onyame okronko kesie nokore bohye ene nahunumobro ene nenyansa efa nabudee ene onye saa wiase yi mo dwumadie edae ena edae mmieniu no aye ama no aketua ene akwontabuo ene nhyira; ekwopim se obemani ahwe dwumadie pa na aye nenhyira ena odebone nee ene osisifo ene otaenii awieye otae ne asisie; ena nokore saa enhyihyeye adase ebi mo ne no ntem aware na nokware Onyame aso bi ahwe dodo ngynaso ekyre se ewuo yaniye ye nokware nnaa nnim ewo so, Onyame kesie akase:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَلْشَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي

أَحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: 39]

{efiri Me sankyireni nom bi no na wo hunu asaase ehoo mo,nase nasani nsuo ego so na emo abeye agyensuo no ameni,Na nokore dee wama owo nkwa no sedee etie biara obema awufoo nkwa, nokore owo no owo tumi wo biribiara so nhyihyeye..} [Suura Fussilat: 39]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَجِيرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ يُعَلِّمُ مِنْتَبَعِدْ عَلِمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَثْبَتَّتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهِيحُ﴾ [الحج: 5]

{Oh Onipa eii se mo gye akyinnye wo owusore da no ho a, esipi se ye booo mo firi dotee mu san firi nkwaboa mu san firi mogyafua mu san firi nam a ahyema ne dee atosene mu sedee yebe da yen tumi adi akyere mo, Na ye nee yeye ka awodee no mu kopim bere potee bi, Afae na y'ayi mo apue abofra na mo aduru mo mmerante bere, na ye kum mo mu bi, na binom nso anyin kopim kokorabere a onnim nee na onim dada no, Na wo behu Asase se awo hwee nni so na se yeto nsuo gu so a na aposo ma emu nnobae ne nnua a Onipa anigye ho nyina ara repuepue..} [Suura Hajji:5]

Na wakaikai ye nokore ewo saa aaya yi mmiensa engyinasoo adwene mo a ekyire efa ewuo yaniye owo neye:

1- Nokore Onyame owo neboo nipa kani nfitiasie efiri netee mo na dee wabo no efiri netee mo ene owo neho tumi se ode no ebeba nkwa mo ewo mmerere a woye netee.

2- Nokware dee owo no nipa efiri anubaye nsuo owo tumi se ode nipa ebeba nkwa mo ewo newuo akyi.

3- Nokware dee ɔmaa asaase nkwa efa nsuo a eto wo newuo akyi enee ɔwo tumi se ɔbema nipa nkwa ewo newuo akyi ena saa aaya yi mo ekyire engyinaso kesie efa quraan tumi enkyirekyire, senna saa aaya yi aka nsenkyerene pii abom - eno na enye dee eware tintii- mmiensa adwene mo ngyinaso ngyinaso pefee efa asembosa kesie ho. Na Onyame kronkonii No akase:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّاعِلِينَ إِنَّا كُنَّا

فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104]

{ " edaa yebobobo esoro etise sedee yebobo atworɔ nwoma,ye de mo ebeba sedee yebɔɔ mo kanii nfitiasee,eye yebohye a eda ye so,Nokware ye na ye dwumadifo..} [Suura Anbiya: 104]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ فُلْيَحْيِيهَا الَّتِي أَنْشَأَهَا

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾ [يس: 78-79]

{ ena wamaye nfatuhɔ nsesoɔ enanso newirefi sedee yabo no, Na ɔkase whae na bema kasai yi nkwa ewo abraa afenfem muhɔmuhɔ (78) Kase ɔbemanɔ nkwa dee ɔmanɔ ebaaye kanii ena ɔno no ɔye nimdienii ewo nabodee so nyinara..} [Suura Yaasiin :78-79]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ

أَرْسَلَهَا ﴿٣٢﴾﴾ [النازعات: 27-32]

{ Senti moɔ na mo demo den abodee yie anaase esoro nbɔye mo (27) ɔpegyaa nenkatasuo na waye no perepere (28) ena wakata na nadwo so ena wama nehae apeye (29) ena asaase ewo abraa saa akyi no wama no atire adaho pae (30) ena waye afiri mo nensuo ene neduane ahabae (31) ena apepo ye de aba atimtim so (32).[Suura Naaziat: 27 - 32.]

Na wama nokore ada ho pefee se eye nipa nboye enye adee a eye den efa efiri esoro nsu ene asaase ene dee ewom nyinara eden da,Na tumi wura wo tumi ewo esoro nsu ne asaase tumi bre biara nnim ewo se ode nipa ebeba biom mmienu no mo.

13. Onyame kɔnkɔ kɛsie ɛna boɔ Adam efiri netee mo ɛna ɔyee nasefoɔ dodoɔ entoatoaso wo akyi,Na nipa nom nyinara ewo wɔnnom ase ye kɔ ɛna yenni nipa bi a woɔdimo ɛsini nipa bi anaase edom bi ewo edom bi so agye efa dee ɔsro Nyame.

Onyame kɔnkɔ kɛsie ɛna boɔ Adam efiri netee mo ɛna ɔyee nasefoɔ dodoɔ entoatoaso wo akyi,Na nipa nom nyinara ewo wɔnnom ase ye kɔ ɛna yenni nipa bi a woɔdimo ɛsini nipa bi anaase edom bi ewo edom bi so agye efa dee ɔsro Nyame:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13)

{ Oh eye mo nipa nom yen yabo mo efiri berima ene oɔbaa ɛna ye yee mo oɔmae ene abusua seɔdee moɔhunu moɔho,Na nokware dee oɔde mo efiri mo mo ɛneye dee ɔsro Nyame, Na nakore Onyame neye nimdien mo nimdienii.} (Suura Hujiraat: 13)

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (افاطر: 11)

{ɛna Onyame aboɔmo afiri netee mo enoakyi efiri anɔbaye nsuo enoakyi na ɔyee mo awareefoɔ,ɛnyee adee oɔbaa ebefa yensei anaase ebewo agye efa nenimdie, ɛna ɛnyee adee nenfie ebekwo so anaase esobeti agye ewo nwoma mo, Na nokware saa no ewo Onyame ho ɛɛmere.} [Suura Faatir: 11]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [غافر: 67]

{ ɔɔɔ neye dee ɔɔɔ efiri natee mo enoakyi moɔfiri ahɔbaye nsuo mo enoakyi moɔfirii mogyatua mo enoakyi ɔyeɛ mo abofra enoakyi sedee mo beyeni eden yie enoakyi sedee mo bedani adoru moɔyeni nfie so, ena efiri mo mo dee ɔbewu afiri saa so, enanso sedee mo yeni adoru moɔnfie yaka atoho ena sedie etie biara moɔbe dwene ho.} [Suura :67]

ena Onyame kesie aka no pefee mo se nokore Issa jesusu nbaye mo efa ne nsem a ɔka se adekɔ nyɔho na ayeɔ,etise sedee yabo Adam afiri dɔtee mo efa Onyame dwumadie, Onyame kesie nɔ akase:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ الَّذِي خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]

{ Nokore Issa "Jesus" nseso ewo Onyame ho etise Ada nseso, yabo afiri netee mo enoakyi me kakyire nɔ se ye ho ena ɔyeɛ ho.} [Suuratu Al-Imrana 59]

Adi animokae efa dee madikae aka ewo kasa mo a etoaso (2) no mo se nokore akomhyani Onyame asomdwie nka nɔ adanide se nipa nom ye baako enye adee efa se obi edemo eseni ɔbi animuoyam mo agye dee Osro Nyame.

14. ena nipa biara yawo nɔ nemmere nom.

ena nipa biara yawo nɔ nemmere nom, Onyame kesie nɔ akase:

﴿فَأَنمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

{ Na moɔntimtim mo animuoyam anim emma esom nokore, Onyame emmere dee ye nipa emmere woɔso, enye adee a esesa efa Onyame

nbɔye mo, Saa wae neye nokore ntintimye esom, Nanso nipa dodoo nnim.} [Suura Ruum:30]

Na saa nkramosom yi ye Abraham Onyame dɔfo kwan Nyame nhyira nka no:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 123]

{ enoakyi ena yayee yekyire ayiyedie ekyire wo se wo be fa Abraham ekwan so tinee nokore so, ena enye adee ɔye bosomsom nee.} [Suura Nahl: 123]

ena Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: :[[ɔbiara nneho a ye bewo no agye se ye wo no enkramo kwan mu na nawofoɔ nom ebeye no jewnee anaase kristo nee anaase majoose nee sɛdeɛ aboa ewo aboa enti mo nya fofrɔ a enfata ewɔ mmoa no mu]]enoakyi Abaa Hurairah Onyame npenie nka no ekase:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ

الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

" Onyame kwanpa (Nkramosom) a Ɖbɔɔ Nipa too so, enye adee a ensesaye ewɔ Onyame abɔdeye mo, Saa wae neye nokore ntintimye esom, Nanso nipa dodoo nnim."} [Suura Ruum: 30]

Al-Buhari Nwoma 4775

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: :[[eye adee a eye nokore me Awurade ahye me se menkyire mo nimdie bi deɛ mɔnnim efiri deɛ wakyire me menda mo saa wae nyinara agyapadie yaye no halaal ama akoo halaal akwama ho ena me Onyame mabo menkoa krogyee nokore mo nyinara ena nokore ɔmo bosam aba wɔnnom so asi ɔmo kwan afiri wɔnnom som mo ena waye no haraam ama ɔmo enye deɛ yaye no halaal akwama ama ɔmo ena wahye ɔmo efa bosom som ho eka mehɔ ewɔ abraa mensanii tumi akwama biara wɔ so]]efiri Moslim ho 2865.

15. ɛna ɛnyɛ adeɛ a ɔbi ɛfiri nipa mo na yawo nɔ bonee mo anaase adidie ɛfa bone hɔ akyi:

ɛna ɛnyɛ adeɛ a ɔbi ɛfiri nipa mo na yawo nɔ bonee mo anaase adidie ɛfa bone hɔ akyi ɛna Onyame kɛsie aboyɛ amanie sɛ Adam Onyame asomdwiɛ nka nɔ ɛwɔ mmɛrɛ ɔbuu ne Nyame bohɛ ɛna wadii yɛ ɔne neyire Hawa ɛyɛ dua nɔ ɛna ɔɔɔ nɔɔɔ ɛna ɔsakraayɛ ɛna ɔsɛrɛɛ Onyame bonefakɛyɛ na Onyame ɛyɛkyirɛ nɔ sɛ ɔnka kasafua pa bi ɛna ɔkaayɛ ɛna Onyame ɛgyɛɛ ɔmɔ nsakrayɛ, Onyame kɛsie akasɛ:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [البقرة: 35-38]

{ ɛna yɛ kaasɛ oh Adam wo ne woyirɛ mɔntina algyanna yi mo na mɔndi deɛ mɔpɛ biara na ɛmɔm nma mɔnpenkyɛ saa dua yi na makwɔka ɔsisifoɔ nom (35) ɛna bonsam edaada ɔmɔ ɛfa hɔ ɛna yayɛɛ wɔnnom ɛfiri deɛ na ɔmɔ ɛwom, ɛna yɛkaasɛ mɔnsinfiri mo mɔmɔ mɔmɔ ɛbɛyɛ atanfɔ, ɛna ɛna mɔɔɔ ɛwɔ asaasɛ mo saa ahɔtom ekwɔpim ɛmmɛrɛ bi (36) ɛna ɔde kasafɔɔ bi ɛmaa ɔmɔ a ɛfiri ɔmɔ Awurade ho na Onyame ɛgyɛɛ ɔmɔ nsakrayɛ yɛ so, Nokorɛ ɔnɔ neyɛ nsakrayɛ Hɛnɛ ɔdɛɛfoɔ (37) Yɛ kaasɛ mɔnsi nfiri mo nyinara, Na sɛ mmɛrɛ biara ɛbɛba mɔnkyɛɛ tineɛ ɛfiri meho na deɛ ɔbɛ di tineɛ akyi na ɛhuu biara nka nɔ ɛna ɔmɔ nkɔwɔ akoma sɛiyɛɛ mo (38).} [Suura Baqara: 35-38]

ɛna mmɛrɛ a Onyame ɛgyɛɛ Adam nsakrayɛ Onyame asomdwiɛ nka nɔ wankwɔ bonee mo so biom ɛna ɛfiri nasefoɔ mo so ɔmɔ ndi adidie bone ɛwɔ ɛmmɛrɛ a ɔmɔ ɛbɛsakra na yagɛɛ so ɛna afapim nokware onipa ɔnkuta bone mo adesoɔ akyi, Onyame akasɛ:

﴿فَلَا عَيْرَ اللَّهِ أَنْبَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [الأنعام: 164]

{ enye adee a kiraa biara eɓenya dee ɔye agye dee waye, ena enye adee a ɔbi eɓesoa obi bone so, enoaky mo Awurade nkye na mɔɓekwo na wabo mo amanie efa dee na mowom eedi ho akyinie } [Suura An'aam:164.]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا

كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15]

{Dee yatini nɔ na nokware mo waya tinee efa nekiraa ho, ena dee wayira na nokore mo wayira wɔso, ena enye adee a ɔbi eɓesoa ɔbi dwumadie fofɔ da, ena enye adee a yebetwi obi aso agye yasoma asomanii ama nɔ} [Suura Israail :15]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُمُنْقَلَهُ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلْنَهَا شَيْءٌ ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ﴾ [فاطر: 18]

{ena enye adee a ɔbi eɓesoa obi fofɔ dwumadie, enase wofre adeden emuodo ewɔ nekutasoa mo enye ade a ɔbekutam afiri ho koraa ene sankaa ɔye nabusua a obeen, Nokore dee ewɔ ho nese wobekowokwo ama dee ɔsro ne Awurade wɔ nsomaye awinta mo ena ɔtintim efre Nyame salat, ena dee ɔbeti nehɔ na nkware wati nekiraa ho, ena Onyame ho na ye sankwɔbiya.} [Suura Faatir: 18]

16. ena butae a efiri nipa nɔɔye mo eye: Onyame esom kɔ pɛ:

ena butae a ewɔ nipa nɔɔye mo ye: Onyame esom kɔpɛ, Onyame kesie akase:

﴿وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]

{ ενα εnyε adeε a yabɔ asaasebɔadensi"jinni" ene nipa saakwa agye efa se ɔmɔ ebɛsom me.} [Suura Zaariyaat: 56]

17. Al-Islam ahye nipa animuoyam akronɔ -mberima ene mmaa- εna ɔde ɔbiara adesoadie kyεfa atwirenɔ wɔ enyiyemo nyinara ene nedwumadie mo ene nedanidani mo εna wasoa nɔ adesoadeε εkyirε dwumadie εha kiraa anaase εhao wɔ afofrɔ so.

Al-Islaam ahye nipa animuoyam akronnɔ -mberima ene mmaa- Na Onyame kesie wabɔ nipa nipadaseni sɛdeε ɔbeyε nsianaamo εwɔ wiase mo, Onyame kesie akase:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً...﴾ [البقرة: 30]

{ εna kae wɔ mmerε a wɔ Awurade εkakyirεε asorobofɔ se Me nokore maya wɔ asaase mo nsianaamo.} [Suura Baqara:30]

εna saa animuoyam yi ahyema ama Adam asenii biara, Onyame kesie akase:

﴿* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ

مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾ [الاسراء: 70]

{εna nokware mo yahyε nipa Adam asenii animuoyam akronɔ εna yama ɔmɔ tumi so εwɔ asaase ene εponsuo εna wama ɔmɔ agyapadie εfiri adepa mo nyinara εna yama ɔmɔ adom animuoyam wɔ dodɔɔ mo εfirideε yabɔ mo animuoyam adom mo.} [Suura Israail:70]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسٰنَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَفْوِيْعٍ﴾ [التين: 4]

{ Na nokore mo yabɔ nipa wɔ nɔni εsu fεεε mo.} [Suura Tiin:4]

εna Onyame ayε no akyirewadeε ama nipa se ɔbeyε nehɔ kitua akyiredie anaase efa se ye bsesom nɔ anaase ye bedi nakyi εfiri Onyame akyi, Onyame aka se:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [الْبَقَرَةُ: 165-166]

{ ena efiri nipa nom bi dee ɔmo afa adesom bebere wɔ Onyame akyi wɔnnom edɔ ɔmo epe Nyame, ena dee ɔmo ayagyidie ɔmo Onyame dɔ eden yie, ena sankɔ ɔmo agyediefɔw nɔ ebɛhunu dee ye de ebeye ɔsisiefɔw ewɔ emmera a ye betwi ɔmo asu nokore ahuoden eho Onyame nyinara, ena nokore Onyame asutwie eden paa eyie, ewɔ mmere a ɔmo agyae dee efata se ɔmo ede ekyire afiri akyiredefɔw ena ɔmo ahunu asutwie enam se ɔmo agyai engyinasoɔ..} [Suura Baqara:165- 166]

Na Onyame Allaah ɔkesie aka pefee mo se nokware nahenie ahyema ama no atamoda:

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمُ أَنحَنُ صَدَدْنَاكَم عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِبَلِّ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِّ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ءَٰندَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سَبَأ: 32-33]

{ Dee ɔmo ye akesisemfɔw no akaakyire dee ɔmo ye mmere asenti yaye mɔ afiri wɔ kwan tinee ewɔ mmere a ɔmo aba, na emom mɔye odeboniefɔw (32) ena dee ɔmo emmere no ekakyiree dee ɔmo ye akesisemfɔw nom se na emom anadwo ne adekyee pɔɔɔ bone ewɔ emmere a mɔw hye ye se ye beye kaafiriya efa Onyame ho ena yeyee no adesom dodoo, ena ɔmo enɔɔ ɔmo ho nsumaye mo wɔ emmere a ɔmo ehunuu asotwie ena ye de sɔnkɔwɔnsɔnkɔw etuu ɔmo ekwɔɔn ho dee ɔmo ye kaafirifɔw nɔ, asenti ɔmo enyaa ɔmo aketua anaa agye dee ɔmo eyeyee (33).} [Suura: 32 - 33]

ena dee wahye Onyame bohaye ma ɔkrɔnkɔnii ɔkesie atamoda eda ɔmo ebekuta wɔnnom fre ene ɔmo kandifɔw ayira adesoadee ene adesoadee efa dee ɔmo ayira wɔnnom wɔ abraa nimdie biara ennim, Onyame kesie akase:

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِمَّا أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا

يَزُرُونَ﴾ [النحل: 25]

{ "εωϭ wϭnnom dwumadie εsoa εmua atamoada,εna εfiri dwumadie εsoa εfa deε ϭmϭ ayira wϭnnom wϭ abraa nimdie biara ennim, asenti εnye bone fii εfa dwumadie soa.} [Suura Nahl: 25]

εna Islaam εde atwire εfa nipa adesoadie mua εwϭ wiase ne awieye da εna adesoadeε εdemo deε Islaam de atwire εna wadanidi akyire nipa nom Onyame hyεfa εwϭ nipa so εna nipa hyεfa a εwϭ Onyame so.Na hadiis a εfiri Muaaz Onyame npenie nka nϭ akase: meye ϭkomhyani adanfϭ Onyame asomdwie nka nϭ na wakase: && Oh εye Muaaz && Mekaase : metiewo wotipaneε εnoakyi ϭkaase nensesoϭ mmiensa: && Senti wonim adeε a εye Onyame hyεfa wϭ nenkoa so&& εna megyeeso se: deεbi ϭkaase:&& Onyame hyεfa εwϭ nenkoa so ne se ϭbesom nϭ εna ϭnye nϭ npatahϭ abosomsom hϭ koraa&& εnoakyi εna ye mmere na wakaase: && Oh Muaaz && mekaase : megye woso εna tipa newo wakase: " senti wonnim deε ye akoa hyεfa εwϭ Onyame so εnase ϭdi saa dwumadie yi: εnye adeε a metwi ϭmϭ asu && Sahiihul Bukhaari (6840)

εna Islaam εde atwire εfa nipa neka hyεfa ene nabusua ene nagyapadie ene nanimuoyam εkahoNa ϭkomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:&& Na nokore Onyame ayεnϭ akyirewadie ama mϭ εfa mϭ mogya ene mϭ animuoyam saa yi wϭ mϭ bosomi yi saa wae wϭ mϭkrϭm saa yi mo&& Sahiihul Bukhaari (6501)

Na nokore ϭkomhyani Onyame asomdwie nka nϭ daworobo εfa saa bohyeye kesie εwϭ hajjatul wadaa εda deε nipa dodoϭ εbaaye εfiri waha apim εwϭ sahaabafoϭ mo εna ϭtintim saa asekyire yi εna ϭhyεeden wϭso wϭ aboa εkum εda εwϭ hajjatul wadaa ho.εna Islaam aye adesoadeε ata nipadane so εfa biribiara mo εnyeyemo ene nedwumadie ene nedanidaniye mo,Onyame kesie akase:

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ

مَنْشُورًا﴾ [الإسراء: 13]

{ ena nipa biara yabɔnɔ atinasie buribiara so a etwirenɔ wɔ nekwaɔn ho, ena yebeyi ama nɔ atamoadaa nwoma a ɔbehya no na yapite na yakakyire nɔ se kinkae wo nwoma nafabu wohɔ aten ende edayi.} [Suura Israail:13]

Asekyire efa deɛ ɔyeyeyɛ efiri nedwumadie mo ewɔ adɛpa mo anaa bone mo na Onyame ayenɔ atinasie amanɔ ntiranɔ wɔ obi fofrɔ so na enye adeɛ ye obi dwumadie ebebunɔ atɛnbuo ena yenbu obi aten wɔ naadwuma so ,ena Onyame kesie akase:

﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْئِقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6]

{ Oh eye moɔ nipa nom nokware mɔ ho abenedie mo ekwɔpim se mɔbehya mɔ awurade wɔ bre mo.} [Suura Inshiqaaq: 6]

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]

{ Deɛ ɔbe di dwumadie pa ɔdi ma nekiraa, ena deɛ ɔbe di dwumadie bone eda neso, ena enye adeɛ a wo Awurade ye ɔsisifoɔ wɔ nenkoa so..} [Suura Fussilat: 46]

ena Islaam ekuta nipa adesoadeɛ ekyire dwumadie a ebeha efa kiraa ho anaase ebeha ɔbi fofrɔ nom, Onyame akase:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْثًا ثَمًّا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 111]

{ ena deɛ ɔbedi dwumadie bone na nokore ɔdi dwumadie no ema nehɔ, ena eye adea Onyame ye nimdienii yansawura } [Suura Nisaai: 111]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: 32]

{efiri enam senti ena yatworɔ wɔ banii israaeel saa yi se nokore dee obekum kiraa bi enye kiraa bi so anaase obe ye aseese wɔ asaase so na nokore otise dee wakum nipa nyinara ena dee obema nkwa na nokore mo otise dee wama nipa nyinara nkwa.} [Suura Maaida:32]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nma mɔnkum kiraa bonee so agye se ɔno nɔ wɔ banii Adam twireye a edikae efiri nemogya kagyɔ efise nokware ɔno nɔ nadikae dee watwa ekum ekwan>>Muslim Nwoma mo (5150).

18. Al-Islam aye berima ene obaa adase ofiri wo dwumadie mo ene adesoades mo ene aketua ene nhyira.

Al-Islam aye berima ene obaa adase ofiri wo dwumadie mo ene adesoades mo ene aketua ene nhyira, Onyame kesie aka se:

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 124]

{ " ena dee obe di dwumadie bi efiri adepa mo eye efiri berima anaase obaa ena oye gyedienii ene ɔmo saa yi na ɔmo ye bewura algyannah mo ena enye adee a ye besisi wɔnnon kitikiti koraa. } [Suura Nisai:124]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]

{ Dee obe di dwumadie pa efiri mberima mo anaase emmaa mo ena ɔno nɔ eye ogyedienii ene yebema nɔ nkwa a ye nkwa pa fe, ena yebema ɔmo aketua a eye wɔnnon efa. } [Suura Nahl: 97]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾ [غافر: 40]

{ Dee ɔbedi dwumadie bone na ɔnya aketua biara agye nenseso, ena deɛ ɔbedi dwumadie pa efiri mberima mo anaase mmaa mo na ɔye gyedienii na saa nkrufoɔ yi na ɔmo ebewura algyannah mo, yema ɔmo agyapadie ahɔya ewom ewo abraa akmɔntabuo biara ennim.} [Suura Gaafir:40]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35]

{Nokore musliminii berima ene musliminii ɔbaa ene gyedienii berima gyedienii ɔbaa ene Nyamesrenii berima ene Nyamesronii ɔbaa ena nekoreɔifoɔ berima ene nekoreɔinii ɔbaa ena abotirenii berima ene abotirenii ɔbaa ena ahɔbrasienii berima ene ahɔbrasienii ɔbaa ena sirahayenii berima ene sirahanii ɔbaa ena akyiwiayenii berima ene akyiwiayenii ɔbaa ena adagya ahɔbaebonii berima ene adagya ahɔbaebonii ɔbaa ena Onyame ɔkaekaeayenii dodoɔ berima ene Onyame ɔkaekaeayenii dodoɔ ɔbaa, Onyame aboaboa bonefakye ama ɔmo ene aketua kesie.} [Suura Ahzab:35]

19. Islaam ahye ɔbaa animuoyam ɛna wama ɔbaa ɛwɔ ɔberima dwumadie debre saa na ɔye nua so senti yabo ɔbaa atinasie ɛfa se berima ebɛbɔnɔ akwɔhomabɔ nase wɔho tumi wɔhɔ senti ɛfata akwɔhomabɔ ɛba ɛwɔ nagma ne nemaame wɔ neba so ɛwɔbase wayine ɛwɔhɔtumi ɛna ɛkunu ɛwɔ neyire so.

Islaam enkyirekyire ɛfa ɔbaa eye berima nuaNa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nokore ɔbaa ye berima nua>>Yeyaaye ɛfiri Tirimizii ho (113)

ɛfiri Islaam animuoyam a ɛma ɔbaa se ɔyee nɔ nhye ɛmaa ɔbaa se yenbɔnɔ akwɔhɔma ɛna maame wɔ neba so nase ɔho tumi aNa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nsa ɛwɔ ɛsoro ɛde ɛma wo maame ene wonua baa ene nenua bɛɛma ɛnoakyi deɛ ɔbɛɛwo ebɛɛwo>>ɛfiri Imaam Ahmed hoena enkyirekyire ebɛba ɛwɔ awofɔɔ afamo Onyame ɛma ɛkwan ɛwɔ nwoma yi mo deɛ ɛtoaso (29).

ɛwɔ animuoyam a Islaam ahye ɛfa ɔbaa hɔ se kunu ɛma akwɔhɔma bɔ wɔ neyire so nase ɔwɔ hɔ tumi a ,Onyame akase:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]

{ɛfa deɛ ɔbetumi abɔhɔ akwɔhɔma ɛfiri nahɔɔden mo,ɛna deɛ ɔwɔ hɔ tumi agyapadie ɛne ɔnɔ akwɔhɔma ɛfiri deɛ Onyame ayenɔ adom, Onyame anye antu kiraa bi so ɛfa deɛ ɔntumi agye deɛ ye de amano, Na sɛdeɛ ɛtie biara dendeede akyi Onyame ɛma no aye mmere mmere} [Suura Talaq:7]

ɛna yabosaa ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ abrantee bi: deɛ ben adeɛ neye ɔbaa kyefa wɔ nekunu so? ɔkaase: << manɔ aduane sɛdeɛ wo wodidi ɛna franɔ ntoma sɛdeɛ wofra ntoma ɛna nbunɔ nanim anaase ndede natem>>ɛfiri Imaam Ahmed hoena somafoɔ aka Onyame asomdwie nka nɔ adanide mmaa hyefa nom bi ɛwɔ kunu nom

so:<< ena wɔnnom hyefa agyapadie ene ɔmo noamahye eda mɔso wɔ kwan pa so>>Musilimu NhomaNa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< eyema ɔdasane bone se n'anibesa deɛ ɔma no deɛ ɔbe di>>efiri Imaam Ahmed hoena Khattaabii akase:(efa saa kasa yi: " deɛ yema no aduane" ɔpe efiri nentina mo aduane ene asekyire etise ɔno nokore wakase efa sadaqa ye: nma sadaqa efa deɛ enye adom animuoyam ema ɔbi aduane enye wo abusua abosa wɔho nhyira;na adani bone saa so ewɔ abraa wo no wadani ehao ama ɔmo)ena efiri Islaam animuoyam ema ɔbaa nese efata akwɔhɔma ema ɔbaa wɔ ngya so.Onyame kesie akase:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾[البقرة: 233]

{ ena awofɔɔ nom nɛma wɔnnom ba nom nufɔɔ nfiɛ mmienu mua, ede ma deɛ ɔpe se ɔhyeno ema nufɔɔ no,ena efa nedintɔɔ ene naduanedie ene nataade hye mo ewɔ kwan pa so." [Suura Baqara:233]

Na Onyame adanide se nokware agya a yawo eba amanɔ ɔno na se ɔmanɔ aduane ene nadaade hyemo ewɔ kwan pa so ena Onyame akase:

﴿ ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ...﴾[الطلاق: 6]

{ Na se wɔnnom ma wɔn nufɔɔ a, ene mɔnfa ɔmo kyefa akatua emma wɔnnom.} [Suura Talaq:6]

Na Onyame ayeno nhye nhyuira ema akwɔdaa nufɔɔ ema ewɔ agya so;Na wakyire efa wɔ agya ema neba aduane ena eba so efra ɔberima ene ɔbaa ewɔ hadiis yi ekyire wɔ nhye aduane eye ema neyire ena eba wɔ agya so,Na hadiis yi yeya efiri Aisha ho Onyame npenie nka no: Nokware Hindan ekakyire ɔkomhyani Onyame asomdwie nka no: Nokore eye Abaa Sufyaan ɔye abrantee a pɛpɛɛyie nekasyie eden na mepese mɛye nesika mo ɔkaase:<< Ye deɛ ebɛsu wo ene womma nom wɔ kwanpa so >>efiri Bukhaari hoena wadanide ɔkomhyani animuoyam adom akwɔhɔmabɔ eba ene nuama nom na wakase Onyame asomdwie nka no:<< Deɛ ɔbetit ahwe nemma maayowa nom mmienu anaase mmiensa anaase nuanom mmaa mmienu anaase mmiensa nuammaa ekwɔpimse edaadie anaase ɔwuuye ɔso ayedeɛ a

me ne no nyinara etise sey,ena okyiree nensasoa akyirekwan ene nsa adentem tentee>>Silsilatu Sahiha 296

20. ena ewuo enye adee a esa koraa deebi da na emom eye ensesaye efiri edae fofro mo ekwo edae aketua mo ena ewuo ede honam mo adanidani ena nkwa ene ewuo nkwa ede apaepaye ntitimo wo honam mo enoakyi na asani awura mo so biom ewo abraa yeyani no atamoada ena enye adee a nkwa ebekwo beebiara so biom ewo ewuo akyi so biom ewo honam mo ena nkwo honam fofro mo so bi.

ewuo enye adee a eno neye awieye koraa, Onyame akase:

﴿قُلِيَّتَوْفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: 11]

{ Kase okum mo owuo asorobofow dee ye de atwirenokw moso enoakyi mo wura Awurade nkye neye mo sankwobiya.} [Suura Sajida:11]

ewuo ede honam mo adanidani ena nkwa ene ewuo nkwa ede apaepaye ntitimo wo honam mo enoakyi na asani awura mo so biom ewo abraa yeyani no atamoada,Onyame kesie akase:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَا نُكَلِّتُ الْقَاصِدِ

عَلَيْهَا الْمَوْتُ يُرْسَلُ الْأَخْرَبِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]

{ Onyame okum kiraa nom wo abraa ewo ewuo mo ena dee omw nwyue ewo omw ndamo,na wakuta dee yanye ewuo nhyehyiye ewo nesu na soma fofro ewo emmere a yaka din atuhokw,Nokore ewo saa yi eye aaya sankyireni ede ma nkrufow a omw edwene.} [Suura Zumar:42]

Na Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nokore nase yegyekw nkwa a eniwa ede akyire >>efiri Moslim ho 920. ewuo akyi nipa ekwo ewo dwumadie edae wo aketua edae mo,Onyame akase:

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ وَبَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا

يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: 4]

{Nenkye neye mo nyinara sankwobeya, ena Onyame bohaye ye nokware, Nokore owo nekyee aboadee ahyasee enoakyi osani de no ebaba sedge obema dee owo ayagyedie ena owo adi dwamadie pa akaho aketua ewo nokore pɛpɛpɛ mo, ena dee owo ayekaafiriya no wɔnnom ho nsuo num efiri hyehyehye mo ene asutwie yayaaya efa dee na owo ye eye kaafiriya bone.} [Suura Yunus:4]

enye adee nkwa esani kwa wo honam mo ewo newuo akyi so biom ena enye adee efɛ nensesoɔ frɛ mo so biom ekyire wosu adwene enye yansa ena yenya efa adansiedie efa saa akomhyafɔɔ gyedie yi Onyame asomdwie nka owo.

21. Al - Islaam efre ekɔ gyedie so efa gyedie kesie afapim enɔ neye gyedie efa Onyame Allaah hɔ ene asoroboafɔ ene gyedie efa Onyame nwoma ebi ne attawora ene ingyeela ene zabuura - ansaana nsesaye ebaa mo- ene quraan ene gyedie efa akomhyafoɔ ene asomafɔ nyinara Onyame asomdwie nka wɔnnom ena wobeya gyedie ɔmɔ awieyenii ɔnɔ neye Mohammed Onyame somafɔ akomhyafoɔ awieye ene asomafɔ ena gyedie efa awieye eɗa'atamoda' ena yenhunu se wiase asetina mo nase enɔ neye awieye; sankwa wiase asetina mo ye saakwa ewɔ ho ena gyedie efa hyebre ene enhyehye

Al- Islaam efre kwo wɔ gyedie mo efa afapim gyedie kesie deɛ akomhyafoɔ ene asomafɔ nyinara boɔ ho dawubɔ Onyame asomdwie nka ɔmɔ, enɔ neye: edekae:

Gyedie efa Onyame Allaah hɔ Awurade ɔbɔadeɛ ɔhonya agyapadienii ɔdanidani nee ma saa wiase yi, ena nokore ɔnɔ nɔ neye krɔpe ɔfata ɔsom ena adeɛ biara a ye besom no eye adefii seiyye atoru ene deɛ ye de bata no eye kyia esom agye nesom nkoa ena esom nfata biribiara agye ɔnɔ nkro pe, Na nokware nkyirekyire adekae pefee ngyinasoɔ efa saa asemposa yi ho,etoaso wɔ nwoma kirataa (8).

ena Onyame krɔnko akeka saa afapim kesie yi ewɔ aaya dodoɔ mo sorɔnkwo mo ewɔ quraan kesie mo ebi ne ɔkesie kasa:

﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{Mɔnya gyedie emma asomafɔ efa deɛ yasani wɔmo efiri mo Awurade ho ene agyediefoɔ nom, Mɔ nyinara mɔnya gyedie mma Onyame Allaah ene asoroboafɔ ene nenwoma ene nasomafɔ nma mɔ nraepae ɔmɔ ntem krɔ koraa, ena ɔmɔ ekase yate ye be desu, yehwihwe

bonefakye yen Awurade ena wonkye neye sankwɔbiya.} [Suura Baqara:285]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]

{ enye adepa nese wobe dani wanim ahwe apieye ene atɔye na emom adepa ne deɛ wayagyedie ama Onyame Allaah ene awieye eda ene asoroboafɔ ene nwoma ene akomhyafɔ ena ɔmaa sika wɔ wodɔɔ nom deɛ ɔɛɛwo ene agyanka ene ahiafɔ ene akwantunii ene aserɛserɛni ene ɔkadefɔ ena ɔtimtim Nyamefre su ena ɔma zaka ntutusuodu ena ɔmɔ a ɔmɔ hye bohye ema wɔ emmere a ɔmɔ afa bohye, ena ɔmɔ ho abotire wɔ ehao ehia mo ene ehao yariye mo ɛwɔ ehao no mmere mo, Saa nkrufɔ yi neye deɛ ɔmɔ ye nokorefɔ, ena saa nkrufɔ yi ɔmɔ neye Nyamesrofɔ. } [Suura Baqara: 177]

ena Onyame ɔkesie erefre gyedie efa saa afapim ena wadanide se deɛ ɔbeyi nɔ kaafiriya na nokware wayira wɔ yiraa eware, Onyame kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ
مِن قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]

{ Oh eye moɔ deɛ maya gyedie ama Onyame Allaah ene nesomanii ene nenwoma deɛ yasoma ama nekomhyani ene deɛ yasani kanii ansaana, ena deɛ ɔbeye kaafiriya efa Onyame Allaah ene nasoroboafɔ ene nenwoma ene nesomafɔ ene awieye eda na nokware wayira yiraa eware.} [Suura Nisaai:136]

ewo hadiis a efa Umar Ibn Khattaab Onyame npenie nka no wakase:(ewo emmerε bi na yenne somanee Onyame asomdwie nka no eteho nenkye ewo mmerε nom na abrantee bi ewura a yemε nadaatee ye fitaa eyie,εna netiri nwee yetuntum eyie,εnse kwantunee ahyensodee εna yemε biara ennim no ekwεpimse εtinaa εkomhyani anim Onyame asomdwie nka no" na εde nekwεtεdwe εbeen wo nekwεtεdwe εna εde nensayem εtuu wo nekwεtεdwe so εna εkaase: Oh Mohammed bome amanie efa Islamm ho na εkomhyani Onyame asomdwie nka εkaase: && Islaam enese wobede adansie se ohenie biara nneho nokore mo agye Onyame Allaah nkoa εna Okomkyani Mohammed ye nesomanee Onyame asomdwie nka no εna na wagyina Nyamefre so ene zaka ye ene akyirewia ramadan ye ene hajji kwε Onyame fie nserahwe ewo mmerε a wowo ho tumi ekwantwa&& εna εkaase: wakanokore: εkaase: na ayeye whawha efa ho wabosa asani akase eye nokore εna wakaase: kyire me adee a eye Imaan"Gyedia" wakase: && enese wobeya gyedia ama Onyame Allaah

ene asoroboafε ene nenwoma ene nesomafε ene awieye εda ene gyedia efa nhyehyeye adepa mo anaase moso εhao mo && εna εkaase: waka nokore εkase: Na kyire me dee ben neye Al Ihsaan wakase: && Se wobesom Onyame etise nokware mo wo hunu No nase eye wo se wonhunu no ene εno dee εhunu wo &&Musilimu Nwoma 8εwo saa hadiis yi mo jibreel εbaa εsomafoε Mohammed ho Onyame asomdwie nka no εna εbosaa no efa Islaam som ndidisε "Maraatim" εno neye : Islaam ene Imaan ene Ihsaan na εyee anu asomafoε Mohammed Onyame asomdwie nka no εnoakyi εna osomafoε Mohammed εboo asuafε sahaabafoε amanie se εye jibreel εbaa se εbkyire mo mosom.Na saa yi neye Onyame soma gyibireel agye afiri Onyame ho εna wakyire nipa efa somanee Mohammed Onyame asomdwie nka no akyire nipa nom εna nesahaabafoε abohεbae Onyame npenie nka εmε εna εmεy so akyire ekyirena.

Mmienu : Al- Iimaan efa Asoroboafε εmε ye wiase mo awinta Onyame abε wεnnom εna waye εmε abεdee soronkwε bi εna wadi dwumadie kesie bi atwire εmε εna εfiri wεnnom dwumadie nom mmerε ne Onyame εsoma εmε ekwε asomafoε ene akomhyafoε nkye Onyame asomdwie nka εmε εna εmε penee ne asorobofuo gyebreel

Onyame asomdwie nka nɔ ɛna ɛfiri deɛ ɛkyirɛ wɔ ɛfa ayeedie yekyirɛ yɛsani ɛma gyibreel ɛde ma asomafoɔ Onyame asomdwie nka ɔmɔ,wakase ɔkesie:

﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاتَّقُونَ ﴿٢﴾﴾[النحل: 2]

{ wasani ama asorobofɔ wɔ ruuhi"gyibreel" ɛfiri medwumadie mo ɛwɔ deɛ mɛpɛ ɛfiri menkoa mo sɛ ɔnbɔkwɔkwɔ sɛ nokorɛ mo sɛ ɔnɔ nɔ adesom biara nneho nokware mo agye me na ɔmɔ ensro me.} [Suura Nahl: 2]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾﴾[الشعراء: 192-196]

{ Na esipi sɛ ye sanee saa nhoma yi firi abɔdee nyina wura nkyen ɔbɔfoɔ gabera na de sanee y ɛsanee baa wo so (w'akuma) sɛ wo bɛ ka kɔkɔbɔfoɔ ho ɛ. ɛsanee wɔ tekyerɛma a ɛye Arab kasa mu ɛna nokware ɛho asem wɔ atentenbae adekaefɔɔ nhoma mu } [Suura Shoaraa 196]

Mmiensa: limaan ɛfa Onyame Nwoma etise attawora ene Ingyeela ene zabuura - ansaana ensesaye adanidani ebaa mo- ɛna quraan Onyame kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ

مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾[النساء: 136]

{Oh ɛye moɔ deɛ maya gyedie ama Onyame Allaah ene nesomanii ene nenwoma deɛ yasoma ama nekomhyani ene deɛ yasani kanii ansaana,ɛna deɛ ɔbeyɛ kaafiriya ɛfa Onyame Allaah ene nasorobofoɔ ene nenwoma ene nesomafoɔ ene awieye ɛda na nokware wayira yiraa ɛware.} [Suuratun-Nisai: 136]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾﴾ [آل عمران: 3-4]

{ Yasani nwoma yi amawo wo nokore mo a ede adansie ema dee ede nanim ekae ena yasani attawora ene Ingyeela(3) efiri ansaana nipa ebeya tinee ena ye sanii nwoma furqaan"quraan",Nokore dee omo ayekaafiriya efa Onyame aaya ho omo ho asotwie dendeede,ena Onyame neye otumifoɔ ye bi tuaka daayonfoɔ (4).} [Suura Aali-Imraan:3-4]

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿عَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: 285]

{Asomafoo ama gyidie efa dee yasani womo efiri mo Awurade ho ene agyediefoo nom, Mo nyinara monya gyedie mma Onyame Allaah ene asoroboafoo ene nenwoma ene nasomafoo nma mo nraepae omo ntem kro koraa,ena omo ekase yate ye be desu, yehwihwe bonefakye yen Awurade ena wonkye neye sankwobiya} [Suura Baqara:285]

Na waka se:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾﴾ [آل عمران: 84]

{Kase yagye Onyame Allaah adi ene dee yasani wo yeso ene dee yasani ama wo Ibrahim ene Ismail ene Is-haq ene Yaqub ene Asbaat ene dee ye de ama Musa ene Issa ene akomhyafoɔ no a omo efiri Awurade nkye enye adee yepaepae etiti omo kro entem ena ye ye muslimifoɔ.} [Suuratu Al-Imrana 84]

ena: Gyedie efa akomhyafoɔ ene asomafoɔ nyinara Onyame asomdwie nka ɔmo ena efata gyedie ema ɔmo nyinara akomhyafoɔ ene asomafoɔ Onyame asomdwie nka ɔmo ena gyedie efa wɔnnom nyinara eye efiri Onyame ho ɔmo ebodaworo skyire ɔmo edom eye Onyame somadee ene nesom ene nemmera, Onyame akase:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]

{“Mɔnkasa yeya gyedie ama Onyame Allaah ene dee ɔsanii yeso ene dee yasani ama Ibrahim ene Ismail ene Is-haq ene Yaquub ene Asbaat ene dee ye de ama Musa ene Iissah ene dee ama akomhyafoɔ efiri ɔmo Awurade ho enye adee ye paepae ɔmo entem krɔ koraa ena yeye muslimifoɔ emanɔ} [Suura Baqara:136]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{Mɔnya gyedie emma asomafoɔ efa dee yasani wɔmo efiri mɔ Awurade ho ene agyediefoɔ nom, Mɔ nyinara mɔnya gyedie mma Onyame Allaah ene asorobofoɔ ene nenwoma ene nasomafoɔ nma mɔ nraepae ɔmo ntem krɔ koraa, ena ɔmo ekase yate ye be desu, yehwihwe bonefakye yen Awurade ena wonkye neye sankwɔbiya.} [Suura Baqara:285]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 84]

{“kasa se yɛnya gyedie ama Onyame Allaah ene dee yasane wɔ yeso ene dee yasani ama Ibrahim ene Ismail ene Is-haq ene Yaquub ene

Yaquub mma ene dee ye de ama Musa ene lissah ene dee ye de ama akomhyafoɔ efiri ɔmɔ Awurade hɔ enye adee ye paepae ɔmɔ entem kro koraa ena yeɛye muslimifoɔ emanɔ.} [Suuratu Al-Imrana 84]

ena ɔnya gyedie wɔ wɔnnom kaakyire wɔn anosini,ɔno neye Mɔhwammed Onyame asomdwie nka nɔ akomhyafoɔ ne asomafɔ awieye Onyame asomdwie nka nɔ,Onyame kesie akase:

﴿إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَتَنْصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقْرَضُكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

{ Kae emmere a Onayme egyee apam bohye efiri akomhyafoɔ ho ewɔ mmerɛ a yɛmaa mɔ nwoma ene yansa adwene enaokyi ena somafɔ nɔ ebaa mo nkyen na ɔde nokore ema dee eka mɔhɔ sɛdeɛ mɔbeɛgye atom efa hɔ,ena adase mɔɔ beboa nɔ,ɔkaase mɔ atimtimsu ena magye ewɔ saa su ntimtimyɛsu,ena ɔmɔ ekaase yatimtimsu,wakaase ene mɔndi adansie sɛ meka mɔhɔ wɔ adansedeɛ nom } [Suuratu Al-Imrana 81]

Na Islaam ehye gyedie efa akomhyafoɔ ene asomafɔ nyinara ena eye gyedie nhye efa neɛ twa wɔn tɔɔ,ɔno ne somafɔ Mohammed Onyame asomdwie nka nɔ,Onyame ɔkesie akase:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [المائدة: 68]

“ Kase oh eye nwomafɔɔ monye twee ewɔ biribi be mo ekwɔpimse mɔbetimtim wɔ attawora ene Ingyeela ene dee yasani ama mɔ efiri mɔ Awurade ho ” } [Suura Maaida:68]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 64]

{Kase oh nwomafɔɔ mɔnbra wɔ kasa baako pe enkyirekyire su ewɔ ye ne mɔntɛm sɛ yensom ɔbiara nokware mo agye Onyame Allaah ena

yenyε nɔatahɔ nka wohɔ koraa εna yenfa yεmɔ yεmɔ adesom bi εfiri wo akyi, Nase ɔmɔ εbrenkyi εdani ɔmɔ akye na mɔnkase ye de adansie se nokore yeye muslimifoɔ.} [Suuratu Al-Imrana 64]

εna deε ɔbe twa ɔkomhyani baako so nkontompo no,na nokore watwa akomhyafoɔ ene asomafoɔ nyinara so nkontompo Onyame asomdwie nka wɔnnom εnam saa nti Onyame aka amanibo mo wo asotwie εfa Nuh nkrufɔɔ Onyame asomdwie nka nɔ:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 105]

{ Nuh nkrufɔɔ εdii nɔ akyinie atorɔ εfa nesoma.} [Shoara'a:105]

εna eye adeε a yanim se Nuh Onyame asomdwie nka nɔ enye adeε a somafoɔ bi adenanim εkae enoakyi nyinara, emmere a Nedɔm εtwaa no so nkontompo no,na saa nniye yi (nkotompo ne atorɔsem) a wɔn ka faa Nuh ho eye nkotomposem εfa akomhyafoɔ ene asomafoɔ nyinara ho; εfise nokore ɔmɔ daworobo Nyamesem ye baako pe εna ɔmɔ dadwene ye baakope.

εNUM: Gyedie εfa awieye εda εno neye atamoada εwɔ wiase nkwa mo awieye,Onyame εbehyε asorobofɔɔ Israafil Onyame asomdwie nka nɔ se ɔnhu abebe tutrubentɔ asoma εwuo na ɔbehu na obiara asoma awu agye deε Onyame εpe,Onyame kesie akase:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ

أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

{ εna yahu abenbɔno a ɔbiara εbesuma awu adeε biara εfiri wɔ ɔsoro nsu mo ene deε εwɔ asaase mo agye deε Onyame εpe,εnoakyi nayahu abenbɔ fofrɔ na εho ɔmɔ atenbuo asu εεtweɔ.} [Suura Zumar:68]

εnase yeikum adeε biara a εwɔ ɔsoro nsu mo ene deε wɔ asaase mo agye deε Onyame εpe,Na Onyame εbebobo ɔsoro nsu ene asaase sedee εwɔ Onyame kasa yi mo:

﴿يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعُدَّا عَلَيْنَا إِنَّا

كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٣٠﴾ [الأنبياء: 104]

{ edaa yebobobo esoro etise sedee yebobo atworuye nwoma,ye de mo ebaba sedee yeboo mo kanii nfitiasie,eye yebohyeye,Nokware Me na medi me dwumadie.} [Suura Anbiya: 104]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ [الزمر: 67]

{ ena wɔn anye pɛpɛpɛ yɔ wɔ wɔn nsusuye a wɔ susu maa Nyame no mu, ena asaase nyinara ekuta nensam atamoada ene ɔsoro nsu yabubo ehye nensa nefa mo,ɔkrɔkɔnii ɔkesie efa dee moɔbeyɛ ntapaho ekaneho.} [Suura Zumar:67]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Onyame tumifoɔ ɔkesie ebobubo ɔsoro nsu atamoada enoakyi na ɔde nensa nifa akutam ɔmo enoakyi na wakase: Me na meye Ohene na akakabensemfoɔ ewɔ henne? Akesesemfoɔ ewɔ henne. enoakyi na wabubo asaase efa nensa bonkum so na enoakyi na wakase:Mena meye Ohene na akakabensemfoɔ ewɔ henne? akesesemfoɔ wɔ henne? >>efiri Muslim ho.enoakyi na Onyame ahye asoroboafɔ amano ahu abeen no na wahu prɛkwɔpɛ so biom na eho a na ɔmo asore eretwen,Onyame kesie akase:

﴿... ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ [الزمر: 68]

{.. enoakyi na wahu aben no so biom na eho ɔmo asore agyena ho eretwen } [Suura Zumar:68]

Nase Onyame eyani abɔdee na waboa wɔnnom anu wɔ akwɔntabuo mo,Onyame kesie akase:

﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَا سِيرُومَ تَشَقُّقُ الْأَرْضِ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ

حَشْرٌ عَلَيْنَا يَا سِيرُومَ ﴿٤٤﴾ [ق: 44]

{ eda a asaase ebɛdwidwa apaepae wɔnnom su ntemtem na saa eda no neye nbuabuano eda eye mmerɛ emaye..} [Suura Qaf:44]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

[16: غافر]

{ edaa wɔnnom eda ho pefee, enye adee biribi bi ebewinta wɔ Onhyame efiri wɔnnom mo koraa, efa saa eda yi wae naho ahenie tumi ndɛdae,eye Onyame Allaah nkoaa krɔpe na akum mo abremase.} [Suura Gaafir: 16]

ena ewɔ saa eda yi Onyame abebu nipa nyinara atɛn ena ɔbiara ɔye odebonene ɔbetwa asotwie ewɔ nebonee ho ama no, ena ɔbema nipa biara naketua efa deɛ ye ne dwumadie ho,Onyame kesie akase:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

[17: غافر]

{ Nde eda yi ye bema nipa biara naketua efa deɛ ɔyeyeye, enye adee ye besisi obi nde dayi,Nokore Onyame nakwɔntabuo eye entemtem.} [Suura Gaafir:17]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

[النساء: 40]

{ Nokore Onyame ɔnsisi ɔbi kitua kitikiti netee,enase ɔye dii adepa a na waye no enbohobohɔ na ɔde ama deɛ ɔho hɔ nhyira kesie } [Suura Nisaai"40]

ena Onyame ɔkesie akase:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: 7-8]

{ Na deε wadi dwumadie pa nsesoɔ kitikiti kitua yie ɔbehunu (7) εna deε wadi dwumadie bone kitikiti kitua yie ɔbehunu (8).} [Suura Zalzalaa: 7 - 8]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾ [الأنبياء: 47]

{ εna ye de εnseneε susu dwumadie εbetusu pεpεε εwɔ atamoadaa na enye adeε a ye besisi kiraa bi koraa,εna se εmodu εtise aba εfiri aba kitua paa mo ye de beba,εna εsonebu mayε εfa atenbuo no } [Suura Anbiyaa:47]

εwuo nyaniye εne akwɔntabuo akyi ye aketua nhyira na deε wadi dwumadie pa ɔwɔ adom daanidaa mo deε ntwaa εna deε wadi dwumadie bone mosoɔ εne kaafiriya εne ɔwɔ asotwie mo, Onyame kesie akase:

﴿ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فاولئك
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ [الحج: 56-57]

{ Tumi Ahenie saa εda no εho Onyame Allaah, ɔbu wɔnnom ntem atenbuo,Na deε waya gyedie na wadi dwumadie pa akaho wɔ asorohemaamo algyanna adom mo(56 εna deε ɔwɔ ye kaafiriya εne akyiniedie mo εfa yen aaya na saa nkrufoɔ yi nawɔ asotwie animguasie mo (57)).} [Suura Hajji:56-57]

εna yahunu se nokore wiase asitina mo sankaa εnɔ nεye awieye; Nanka nentina mo ye adeε a εwɔ ho saa ara εkwa soronkwɔ,Onyame kesie akase:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ [المؤمنون: 115]

{Enti mo susu se yeboɔ mo saa ara kwa na yen kyen na yensan nfa mo mma anaa } [Suura Al-Muuminuun:115]

Nsia: Gyedie efa enhyehyeye ene hyebre eno no efata nhye gyedie waho efa nokore Onyame nokware mo onim adee biara ewo ho ene dee aye ho ene dee ebeye ho ewo saa nabodee mo ena nokore Onyame atworo biribiara ansaana oredo esoro nsu ene asaase Onyame kesie akase:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ﴾

﴿لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]

{ena nenkye na ensumaye mo safoa eho enye adee a obi enim agye ono, ena onim dee ewo asaase mo ene eponso mo, ena dee ebeto ate afiri ahahabae mo agye onim anaase aba a ewo asaase sum mo anaase dee ye munu anaase dee awu agye ewo nwoma pefee mo.} [Suura An'aam:59.]

ena nokware mo Onyame atwaahyia wo biribiara nimdie mo Onyame kesie akase:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]

{Onyame Allaah naboo osoro nsu ena asaase so nensesoo osani nenhyehyeye ewo wonnom ntem sedee ebeye a mo behunu nokore Onyame newo tumi nhyehyeye wo biribiara so ena nokore Onyame nenimdie atwa biribiara ho ahyia.} [Suura Talak:12]

ena nokware mo Onyame enye adee biribi be esi wo saa abodee yi mo efiri nhyehyeye mo agye nokware dee Onyame epe ena nepe ena obo abodee ena wagugu nengyenaso mo, Onyame kesie akase:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ

كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2]

{ Dee eye nedee ewo no esoro nsu ene asaase ena enye adee a ewo eba ena onne obiara a oka neho ewo nahenie mo ena ono nebo biribiara ena oye nenhyihyeye ewo neso nhyihyeye } [Suura Furqaan : 2]

ᵎᵎ naho dee wᵎ yansa yene dee nipa nᵎwa nᵎhya, Onyame kesie akase:

﴿ حِكْمَةٌ بِالْعَمَّةِ ۖ فَمَا تُعْنِ الثُّدُرُ ﴿٥﴾ [القمر: 5]

{ " Yansa yine a epi, na enye adee eye agyapadie ema ᵎkwᵎkwᵎbofoᵎ. } [Suura Qamar:5]

Na Onyame krᵎnkᵎnii Nᵎ akase:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ [الروم: 27]

{ ena ᵎᵎ neye adee ᵎde abᵎdeᵎ ebaaye enoakyi ᵎde nᵎ ebeba biom ena eemeᵎ ema nᵎ wᵎsu ena ᵎᵎ nᵎho nᵎfatuᵎ kesie a ewᵎ ᵎsoro nsu ene asaase ᵎᵎ neye ᵎtumifoᵎ ene yansawura. } [Suura Ruum: 27]

ena Onyame ede yansa atutu nᵎho ena watudiin se yansawura, Onyame kesie akase:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ [آل عمران: 18]

{ Onyankropᵎn adi adanse se Onyame biara nni hᵎ ᵎfata ᵎsom wᵎ nokware mu gye Onyankropᵎn baako pe, Na Abᵎfoᵎ ne nimdifoᵎ nso di adanse, na nimdifoᵎ gyena pintee wᵎ perepere yᵎ mu, Nyame biara nni hᵎ a ᵎfata ᵎsom wᵎ nokware mu gye Onyankropᵎn baako nkunimdifoᵎ ne ᵎnyansafᵎ Nyame. } [AalIm'raan/18]

Olohun ti Ola Re ga si tun so ni Eni ti O n fun wa ni ironipa Anabi Eesa - ki ola Olohun ki o maaba a - wipeyᵎᵎba Olohunsoro ni ojoigbedidelenitiyoomaa so pe:

﴿ إِنْ تَعَدَّيْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ [المائدة: 118]

{ Nase wo betwi ᵎᵎ asu na nokore mo ᵎᵎ ye wonkoa, nase wodebekye wᵎnᵎom a na nokware wᵎᵎ na woye ᵎtumifoᵎ Yansawura. } [Suura Maaida:118]

ena Onyame kesie abᵎ amanie efa Issa hᵎ Onyame asomdwie nka nᵎ se nokore ᵎᵎ nᵎ ᵎbekasa nipa hᵎ atamoada prekwᵎpe hutubaye:

﴿ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [النمل: 9]

{Oh eye wo Musa nokore eno no ye Me Onyame Allaah otumifoo Yansawura } [Suura Naml:9]

ena Quraan kesie ede atutu efa yansa na Onyame kesie akase:

﴿ الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: 1]

{Alif Laam Raa, nwoma yi a yansa aaya ewom,enoakyi yakyikyem a efiri eho nenkye yansawura nimdiewura.} [Suura Hud:1]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ

مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الإسراء: 39]

{Saa wayi naye dee efiri ayedee ekyire ema wo efiri wo Awurade ho wo neyansa mo,nma wo nfa obi nka Onyame ho adesom fofro na yatu wo atu gyahannama egya mo abreasio ennuhu nkonim so.} [Suuratull's'raah: 39]

22. ena akomhyafoo ye ahobaefoo Onyame asomdwie nka omo ewo adee a omo eboho daworu efa Onyame kasa ena omo ye ahobaefoo efiri adee biara dee ene adwene ebobra anaase ebepo abodee adwene mo pefee ena akomhyafoo wannon na ye de atwire omo efa daworubo Onyame ahyedee efa nenkoa ene akomhyafoo omo nne twee efiri obodee anaase okrope dwumadie mo; Na emom omo ye nipa nom etise nipa nyinara na Onyame naye omo yekyire ayedee efa nesoma.

ena akomhyafoo ye ahobaefoo Onyame asomdwie nka omo efa dee omo eboho daworu efa Onyame kasa;efise nokore Onyame aye omo abodee mo enyemo sedee omo bebo Onyame asem ho daworu,Onyame kesie:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (الحج: 75)

{ Onyame ena aye afiri asorobofoɔ mo asomafoɔ ena efiri nipa nom so,nokore Onyame neye teenii ene ehunu eniwa.} [Suura Hajji:75]

Na waka se:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَعَبَّادَةَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران:

[33

{ Nokore Onyame na aye Adam ene Nuh ene Aali Ibrahim ene Imraana ewo adasanma mo } [Suura Al-Imrana :33.]

Na waka se:

﴿ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَأَمِي فَاخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: 144]

[الأعراف: 144]

{ Wakase Oh Musa nokore Me maye wo ewo nipa mo efa mesoma ene me kasa na kuta mo dee ye de amawo nedani efiri ndaasienii.} [Suura Aaraf:144]

ena asomafoɔ Onyame asomdwie nka ɔmo ɔmo enim dee yesani sani ema ɔmo eye yekyire ayedee efiri Onyame ho ena asorobofoɔ so edeho adansie esani sani efa ayedee yekyire,Onyame kesie akase:

﴿ عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَن أَرَادَ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدِ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ

شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾﴾ [الجن: 26-28]

{ ensumaye mo nimdienii na enye adee a nensumaye mo edaade ekyire obi (26) Agye dee ɔpe wapene so ama no efiri asomafoɔ mo na nokore etwakwan efiri dee eho nanim ntem ene dee eho nenkye mo eretwe (27) Sedee ɔbehunu se nokore ɔbeboho daworu soma sem efiri nawurade ho ena dee eda nanim watwaho ahyia ena watworo biribiara ho ndidisoo mo (28).} [Suura Jinni: 26-28]

ena Onyame ahye ɔmo efa nesomaye asem daworubo Onyame kesie akase:

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ [المائدة: 67]

{ Oh eye somafoɔ bɔdaworu efa dee yasani ama wo efiri wo Awurade ho,ena se wanye a na enye adee a wabo asem noho daworu ene Onyame ebo wohɔbae afiri nipa ho,nokware Onyame ɔntine kaafiriya edom.} [Suura Maaida:67]

Na waka se:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ [النساء: 165]

{ Somafoɔ bi anuhɔbafɔɔ ene ɔkwɔkwɔbɔfoɔ sɛdee ebeye a nipa mba enya engyinasoɔ bi wo Onyame ho efiri akomhyafoɔ no akyi,ena Onyame neye ɔtumifoɔ yanswura.} [Suura Nisai:165]

ena asomafoɔ Onyame asomdwie nka ɔmo esro Onyame yie sro mo ene ɔmo esro no na enye adee a ɔmo de biribi be ebeka nesomaye nom ena enye adee a ɔmo ebetibiso afiri mo,Onyame kesie akase:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا

مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عِنْدَهُ حَنْزِلِينَ ﴿٤٧﴾ [الحاقة: 44-47]

{ Sanka wo sesa yen asem ensisaye mo nom bi (44) Nanka ye besɔnemɔ afiri yensa nifa mo (45) enoakyi na yatiti apɔsa afiri nenkwɔntire mo (46) Na enye adee a mo mo bi ebetumi atwitwa agyeno koraa (47)} [Suura Haaqa:44 -47]

Ibn Kathir Onyame ahunumoroɔ nka no akase:(ɔkasee erekase : { Sanka wo aka biribi wo yen asem mo a } Asekyire : Mohammed Onyame asomdwie nka no sanko ɔyee sɛdee ɔmo esusu seremobo nsem atɔru etu yeso nom bi ena ɔde ekaa wo yensomaye nom anaase wotii so efiri mo anaase wokaa biribi ewom kitikiti efiri nkye etise yen dee - ena enye saa-nanka yaye efa wo asotwie ena efa saa yi ɔkaase:{ Nanka yekuta esɔɔ nemo efiri nifa su } yakase: asiekyire se yebeye bi atuaka efiri ye nifa su; efise nokware eno no eyeden wo asotwie mo ena yakas: Nanka yebekuta asɔnemɔ afiri efa menifa }Na waka se:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ فُلْتُهُ وَقَدْ عَلِمْتَهُ وَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي
وَلَأَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾﴾ [المائدة: 116-117]

{ ena kae wɔ emmere a Onyame erekase oh Issa mary ba senti wɔna wokakyirɛɛ efa nipa nom se ɔmɔ ensom wo ene womaame adesom mmieniu efiri Onyame Allaah akyi,ɔkaase woye ahɔtienii enye adee a efata se me meka adee bi a enye nokore nase eye adee a makaa nokore mo wonnim,wonnim deɛ ewɔ makoma mo,efise nokware mo wo na woye nsumaye mo nimdienii.enye adee a maka biribi be akwire ɔmɔ agye deɛ wakyɛ me wɔhɔ,se ɔmɔ ensom Onyame Allaah me Awurade ene ɔmɔ Awurade,ena meye ɔdansinii wɔ wɔnnom ewɔ emmere a mewɔ ɔmɔ mo,Na emmere a wɔpɛgyaa me ekwɔɔ ɔsoro mo na wona ɔtwe ɔmɔ su,ena wo na ɔye ɔdansenii wɔ biribiara so..} [Suura Maaida: 116 - 117]

efiri Onyame adom mo ema akomhyafoɔ ene asomafoɔ Onyame asomdwie nka nɔ nokore Onyame etimtim ɔmɔ efa ɔmɔ daworubo ewɔ mesomaye,Onyame kesie akase:

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضْنَا بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنْ شَهِدُ اللَّهَ وَشَهِدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا نُمْ لَا تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: 54-56]

{ Wakase nokware mu mede Onyame ye m'adansinii na mo ndi adanseɛ se: nokore mu me matwi meho afiri deɛ mo ye nbataho abosomsom hɔ (54) efiri mo abosom no ho,na mo bɔ epɔɔne wɔ mesu, mo nyinara na enoakwi emma mo ntwentwen so koraa (55) Nokore me mede mehɔ atwire wɔ Onyame Allaah me Awurade ene ɔmɔ Awurade na enye adee ewɔ abodeɛ bi "daaba" agye ɔmɔ no wagye efa nekyefa nokore me Awurade naho ekwan tineye trɔduu atimtim so.} [Suura Hud 54 - 56]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحِيَنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ تَبَتُّنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذْفَنَّاكَ فِي ضِعْفِ الْحَيَاةِ وَضِعْفِ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾ [الإسراء: 73-75]

{ ena sankaa ɔmɔ ɛyaaye a nanka ɔmɔ ebeye nkyirekyire akyire wo wa deɛ yasani ama wo ye ayedeɛ sedee ebeye a wobeye yen nkyire kyire nti se ye deɛ, enanka ɔmɔ efaa wo yee atanfoɔ (73) ena sankaa enye adee a yatitim wo nanka nokware wodii ɔmɔ asem akyi kakra (74) Nanka ye ma wo ekaa amanehunu nkwa wiase mo ene amanehunu ewuo mo so ena enoakyi enye adee wobeya wa yakyi aboafɔ bi (75).} [Suura Israa: 73 - 75]

ena saa aaya yi ene deɛ ede manim kae no eye ede adansie ena engyinasoɔ efa se nokore adasanma Nyame nasanii quraan ebaaye; efise nokore ɔmɔ nɔ sankaa ɔnfiri Onyame ho asomafɔ Mɔhwammed Onyame asomdwie nka nɔ wa emmere a ɔmɔ epeese ɔfa ɔmɔ kasa nsesoɔ nom bi nka Onyame kasa mo. ena Onyame ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔbo akomhyafɔ ene asomafɔ ebae efiri nipa mo, Onyame kesie akase:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [المائدة: 67]

{ Oh eye somafɔ bɔdaworu efa deɛ yasani ama wo efiri wo Awurade ho, ena se wanye a na enye adee a wabo asem noho daworu ene Onyame ebo wohɔbae afiri nipa ho, nokware Onyame ɔntine kaafiriya edom } [Suura Maaida:67]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ افْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾﴾ [يونس: 71]

{ ena kenkae ekyire omo efa Nuh abakosem ewo emmere a okakyire nekrufo se oh menkrufo nase moye akese sem wo meso enam medebre nti ene menkaekaye efa Onyame asem ene Onyame kesie no nkoa na me de meh o etwire na monka mohnbom ne monhyehyeye ene mabosom nom enye adee mo dadwene hao ebebam ena enoakyi moye dee moye wo meso ena nma montwen koraa.} [Suura Yunus:71]
 ena Onyame kesie abo amanie efa Musa kasa Onyame asomdwie nka no:

﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

﴿٤٦﴾ [طه: 46-45]

{Wonnom mmienue ekaase oh yen Awurade yesro se obero yen asem anaase obeye ahantae wo ye su - wakase nma monstro, Nokware me meka moho metie ehun} [Suura:45-46]

Na Onyame kesie adanede nokware mo se oko no obero asomafon ho bae Onyame asomdwie nka omo afiri wonnom atanfo nom na enye adee oko ebetumi de ehao biara aka oko ena wabo amanie nokore okronko okesie se nokore oko no obero neyekhyire ho bae na yenza bi nka ho ena yentiso efiri mo, Onyame kesie akase:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾ [الحجر: 9]

{ Esipi se yen na yesanee nkaekae no, na esipi se yen na yebe bo ho ban } [Suura Al-Hujiraat:9]

ena akomhyafon Onyame asomdwie nka wonnom oko ye ahobaebofon efiri adee biara a oko esro adwene mo anasse abodee mo: Onyame kesie aka ahotee nsem efa nekomhyani Mohammed ho:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [القلم: 4]

{ "... ena nokware mo, wo wo subae pa edemo eyie.. } [Suura Qalam:4]
 ena waka so biom efa neh o:

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾﴾ [التكوير: 22]

{ ena enye adee mo yonko no ye edamfon bodomnee.. } [Suura Takwir :22]

ena saa no ekɔpim se ɔmɔ ebekuta adeso efa somaye no wɔ kwan pa so ekutam ena akomhyafɔw Onyame asomdwie nka wɔnnom etwire efa Onyame asem daworubo efa nenkoa enye adee ɔmɔ wɔ biribi be koraa efiri soronkwo ɔbɔadee anaase ɔkrɔpe tumi mo na emom ɔmɔ ye nipa etise nipa nom nyinara na Onyame yekyire neho wɔnnom so efa nesomaye nsem, Onyame kesie akase:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا

كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾ [إبراهيم: 11]

{Wɔnnom asomafɔw nom akaakyire ɔmɔ se yenye twee agye nipa etise mɔ na emom Onyame ayeye adom ewɔ dee ope mo efiri nenkoa mo, ena enye adee a ye de tumi bi ebɛbre mɔ agye Onyame epe mo, ena eye Onyame nkoa na agyediefɔw etwire} [Suura Ibrahim:11]

Na Onyame hyee ɔsomafɔw Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no se ɔnka se:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١﴾﴾ [الكهف: 110]

{Kase nokware mo meye nipa mɔnseɔw na yekyire na yaye ema me na nokore deɛ ɔye mɔ Awurade neye Awurade krɔpe, Na deɛ ɔpɛɛ ɔhyia ne Awurade ene ɔnde dwumadie pa ena nma no enye no nprataye efa nawurade som krɔpe.} [Suura Kahf:110]

23. ɛna Islaam ɛfrɛ ɛkwɔ Onyame ɛsom krɔpɛ hɔ ɛfa ɛsom kɛsie afapim ɛnɔ nɛyɛ:Nyamefrɛ"Salat" deɛ yɛ engyinaho ɛne ɛnbumo ɛne momabɔ ɛne Onyame nkaekayɛ ɛne nekrɔn kɛsie ɛne nraebo, ɛna nipa ɛfrɛ salat mprɛ num ɛda biara,ɛna yɛba nesantee mo hianee ɛne sikanee ɛne ohene ɛne debrɛnee ɛne oɔpenee wɔ salat santee baakopɛ mo,ɛna zaka yɛ ɛntutusɔɔdu yɛ ɛyɛ sika mo yɛ ɛfiri kakra mo - ɛwɔ ntintimɛyɛ ɛmmere mo ɛne nepɛnpensɔɔ mo deɛ Onyame ahyehyɛ atuhɔ- ɛyɛ ɛnhɛ wɔ asikafoɔ sika mo na ɔmɔ de ɛbɛma ahiafoɔ ɛne deɛ ɔmɔ ɛkahɔ,yɛyeno mprɛ baako pɛ wɔ afim nom nyinara mo,ɛna siyaam akyirewia yɛ ɛno nɛyɛ: anu kuta wɔ aduane di mo wɔ ramadan bosomi awia mo, ɔtwe nehɔ apɛdeɛ ɛne abotirɛ yɛ,ɛna hajji kwɔ ɛno nɛyɛ:Onyame fie kwɔ dadwene wɔ makka animuoyam fie mo baako pɛ kwɔ wɔ wonfie mo nyinara ɛwɔ mmere a woho hɔ tumi,ɛna saa hajji yi ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ɛma ɔbiara wɔ ɛho twe ɛfa nabodeɛ ɔkrɔnkɔ,nipa ahodoɔ ɛne ɛso soronkwo nyinara.

Islaam ɛrefrɛ ɛkwɔ wɔ Onyame som ɛfa ɛsom kɛsie ɛne ɛfa nakyi ɛfiri ɛsom mo ɛna saa ɛsom kɛsie yi ɛyɛ adeɛ Onyame ayeno ɛnhɛ wɔ akomhyafoɔ su ɛne asomafoɔ Onyame asomdwie nka wɔnnom ɛna ɛsom a ɛdemo ɛsɔ nɛyɛ yɛ:

1. ɛdikae: Salat "Nyamefrɛ" Onyame ayeno nhɛ wɔ muslimifoɔ su sedee wayɛ no nhɛ wɔ akomhyafoɔ ɛne asomafoɔ su nyinara Onyame asomdwie nka wɔnnom ɛna Onyame ahyɛ nekomhyani nedɔfo Ibraahiim Onyame asomdwie nka nɔ sɛ ɔbeti nefie hɔ ɛfa tawaaf yɛ ɛne Nyamefrɛ ɛne rukuu yɛ ɛne sujuudu yɛ Onyame kɛsie Nɔ akasɛ:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]

{ena kae wo mmere a yaye efie yi akwanaba ama nipa nom ene ahɔbaebo ena mɔnfa maqaamu Ibraahiim Nyamefre biya, ena yafa bohye wo Ibraahim ene Ismaail se ɔmɔ de tawaaf ye ebeti mefie no ho ene engyinaho ene rukuu ye ene sujuudu ye.} [Suura Baqara:125]

ena Onyame ayeno nhye ewo Musa su wo fre a edikae mo efa Musa Onyame asomdwie nka no, Onyame kesie akase:

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَع نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا

يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴿١٤﴾﴾ [طه: 12-14]

{ Nokore me mena meye wo Awurade senti woro wonpapoa, Nokware wo woogyina biya pepɔ ahɔtee "tuwa" (12) ena Me mayi wo na senti tee efa dee eye ayedee yekyire (13) Nokore Me na meye Allaah obiara nneho nokore mo agye Me senti mɔnsom Me ena mɔnfre Nyame Salaat efa nekae mo (14)} [Suura Taha 12-14]

ena Issa Masihi abɔ amanie Onyame asomdwie nko se nokore Onyame ahye no efa Nyamefre ho "Salat" ene zaka yi ho na wakase sedee Onyame kesie akase:

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾﴾ [مريم: 31]

{ "... ena waye me nhyira ewo beebiara meho ena wahye efa Nyamefre Salat ene zaka ye wo emmere mo a meti nkwa mo... } [Suura Maryam:31]

ena Nyamefre 'Salat' ewo Islaam mo eye gyinahohene rukuu ye ene sujuudu ene Onyame zikiri ye ene nekrɔn kanfoɔ ene nraebo wo nipa Nyamefre efiri mpre num nom eda biara, Onyame kesie akase:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]

{ Mɔnbɔ mɔ Nyamefre mpre num no ho bae ene adentemo Nyamefre ena mɔngyina mɔ nae su pintee nma Onyame esro mo } [Suura Baqara:238]

Na Onyame kɔnɔnɔnii Nɔ akase:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا﴾ (الإسراء: 78)

{Gyina Nyamefre so efiri ewia npeeye mo ekwɔpim anadwo enwura mo ɛna quraanil fajir,Nokoye quraan fajir eye adee a eye adansi} [Suura Israai:78]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Na adee a eye rukuu eye se ɔye wo Awurade kesie ewom ɔtumifoɔ ɔkesie ɛna sujuudu so esese wobɔmoden wɔ nɔpaeɔ ewom na yewɔ gyedie se ye betieɛ mɔnɔpaeɔ).Musilimu Nwoma.

2.Mmieniu : Zaka ye adee a Onyame ayeno nhye wɔ muslimifoɔ so sɛdeɛ Onyame ayeno nhye wɔ akomhyafoɔ ene asomafoɔ kani nom Onyame asomdwie wɔnnom eye sika mo ye kakraa bi adoro nisaab efiri wo sika mo -emmera atimtim so ene nenisaab dee Onyame ahyehye atuhɔ- eye nhye wɔ sikafoɔ agyapadie mo na ye de ama ahiafoɔ ene dee ɔmɔ ekahɔ wɔ mpre baako pe afim mo,Onyame kesie akas:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (التوبة: 103)

{ Gye firi ɔmɔ sika mo entutusɔɔdu zaka nefa ti wɔnnom hɔ ɛna nafa ti ɔmɔ sika hɔ na afei nabɔ nɔpaeɔ ema ɔmɔ,Nokore wonpaebo ye ahɔbaeɔ ema ɔmɔ,ɛna Onyame neye asuteenii nimdienii.} [Suura Tawba:103]

ɛna emmere a ɔkɔmhyani Onyame asomdwie nka nɔ eresomaa Muaaz Onyame npenie nka nɔ ewɔ yemen kromo ɔkakyire nɔ se:<< Nokore wo beɔ nkrufɔɔ bi nkyen nwomafoɔ nafre mo ekwɔ hyahaada hɔ se nokore mo ɔhene biara nneho nokware mo agye Onyame Allaah nkoaa ɛna nokore me so meye Onyame somafoɔ nase ɔmɔ egye wo etom edisu efa saa so ene kyire ɔmɔ nokore mo Onyame aye Nyamefre mpre num nhye wɔ nda ne anadwo mo nyinara ama wɔnnom nase ɔmɔ ediso a na wama ɔmɔ ahunu se Onyame aye zaka entutusɔɔdu nhye wɔ wɔnnom sika mo gyefiri asikafoɔ ho nafama ɔmɔ ahiafoɔ nom nase ɔmɔ edeso a ewɔ saa so ene ye ahweyie nahwe ɔmɔ agyapadie so eyie nasro

ɔfrɛfoɔ yasisi nɔ nɔraebo na nokore nne ene Onyame ntem nkatasoo enyeni >>Yɛyaaye efiri Tirimizii ho (625).

3.Mmiensa :Siyaam Akyirewia Onyame ayeno nhye ewo muslimifoɔ su sedee Onyame ayeno wo akomhyafoɔ ene asomafɔɔ atwam nom Onyame asomdwe nka wɔnnom,Onyame kesie akase:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ﴿البقرة: 183﴾

{ Oh eye mo dee mayagyedie yaye akyirewia no nhye wo mɔso sedee yaye no nhye ama dee ɔmo ede ɔmo animo kae sedee mɔbesro Onyame.} [Suura Baqara:183]

ena eno neye : Anu kutam efiri aduane di ho wo anopa awia ramadan bosomi mo ena akyirewia ema wo kuta wo apedee entitiye mo ene abotireNa Ɔkomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwe nka no akase:<< Onyame ɔtumifoɔ ɔkesie ekase: Akyirewiaye akwankyire ye medea ena me na memaho nhyira wagyae nakwɔnɔdee ene naduane di ene nensuo num enam menti ena siyaam akyirewia ye ahɔbaebo ena efa akyirewiayenii anigyie mmienu: Anigyie ewo emmere a wɔɔbee wanu ene emmere a wobehyia wo Awurade >>Bukhari Nwoma 7492.

4.ɛnae: Hajji Onyame ayeno nhye wo muslimifoɔ su sedee Onyame ayeno nhye ewo akomhyafoɔ ene asomafɔɔ kani nom Onyame asomdwe nka wɔnnom ena Onyame ahye nekomhyani Ibraahim nadanfɔ Onyame asomdwe nka nɔ se ɔnfre efa Hajji,Onyame kesie akase.

﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾﴾[الحج]

[27]

{ ena ye azaan efre nipa nom efa hajji ye ho wɔnnom ebɛba nanteɛ mo ene ewo kwan biara so aboa sotina wɔnnom ebɛba afiri enmiyamiya eware aba..} [Suura Hajji:27]

ena Onyame ahye se ɔmo ebeti nefie ahɔbaebo ho ema hajjiyefɔɔ,Onyame kesie akase:

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ [الحج: 26]

{ ena kae wɔ emmere a yekyere Ibraahim wɔ beebia efie no ewomho se nma no npataho nka mehɔ abosomsom ho koraa ena onfa tawaaf ye enti efie no ho ene enaesu gyina nyamefre ene rukuuye ene sujuudu ye..} [Suura Hajji:26]

ena hajji eno neye: Nyamefie adwenefa wɔ makka mukarrama ensera kwo efa dwumadie soronkwo a yenim nekwo baako pe ewɔ wonfie mo nyinara wɔ abraa wɔwɔ ho tumi, Onyame kesie akase:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ [آل عمران: 97]

{ ena Onyame wɔ nipa so ne hajji fie efiri deɛ ewɔ ho tumi ekwantwaye wɔho, ena deɛ wɔbe yeno kaafiriya na nokore Onyame neye agyapadie ahɔya wura wɔ adasamma so } [Suuratu Al-Imrana :97]

ena wɔ hajji mo eboaboa hajjiyefɔ nyinara muslimifɔ ewɔ beebe baako akomati esom ema wɔbadeɛ wɔkrɔnkɔnii ena hajjifɔ nyinara eye ehye no ma efa sedee yeye manaasik hajji no yie ewɔ kwan a yakyire ne gyina soyebre ewɔ nekwan so ene nenimdie yansa mo ene netineye anamotuo.

24. ena deɛ a esu edemo ema Nyamesom ye soronkwo wɔ Islaam mo bi neye sedee esom no tee ene ne mmere ene ne mmera Onyame krɔnkɔ wɔkeseɛ no ayeno emmera ena Ne somafoɔ Onyame asomdwie nka no abɔ ho amanee ena enye adeɛ a nipa ede be akaho anaase watibisu ekɔpim saa enda ye mo ena saa esom akessie yi nyinara akomhyafɔ nyinara afre akɔho Onyame asomdwi nka wɔwɔ.

ena deɛ a esu edemo ema Nyamesom ye soronkwo wɔ Islaam mo bi neye sedee esom no tee ene ne mmere ene ne mmera Onyame krɔnkɔ

okesee no ayeno emmera ena Ne somafow Onyame asomdwie nka no abo ho amanee ena enye adee a nipa ede be akahw anaase watibisu ekopim saa enda ye mo, Onyame kokroko akase:

﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

﴿3﴾ [المائدة: 3]

{ Nde eda yi yahye mosom no ma ama mo ena ye de yaadom ahyeno ma ama mo ena ya pene amano dii se Islaam som.} [Suuratu Al-Maida 3]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿فَأَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: 43]

{ Na kuta mo yie efa dee yasani ama wo ye ayedee yekyire, Nokore wo ho ewo ekwan tineye su atimtim.} [Suuratu Az-Zukhruf 43]

ena Onyame kesie akasa efa Salat Nyamefre ho:

﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا﴾

الصَّلَاةُ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]

{ Nase mofre Nyame ewie ene montumtum Onyame ngyinahw ene entenahw ene endahw, enase mokwo ahwo mo a na monfre Nyame 'Salat' Nokore Nyamefre ewo ho yi eye adee a enhye wo gyedienii su yatworw no nemmere mo..} [Suura Nisaai:106]

ena Onyame kesie akasa efa zaka yi ho:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾

وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]

{ Nokore dee ewo ho nese zaka yee ye de ma ahiafow ene ehw dwumayefow ene dee opese oye Islaam tuuba ena akwa ene ekadinee ene dee odi Nyame dwuma ene okwantufow, eye nhye a efiri Onyame ho, ena Onyame neye nimdienee yansawura } (Suura Tawba:60)

ena Onyame kesie akasa efa Siyaam akyirewia ho:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]

{Ramadan bosomi mo dee yasani quraan ewom eye tineε ema nipa nom ena eye nkyirekyere efiri tineε ene furqaan nokware ene atoro ntem pefee mo, na dee obe di bosomi no adansie efiri mo mo na onye ramadan akyirewia, ena dee oyare anaase akwontuo mo ene onfa ramadan ye no enhye eda fofro mo, Onyame epe agwogono ema mo ena enye adee ope dendeede ema mo ena monhye nda mo ma ena afie montumtum Onyame kesie mo ewo tineε watine mo ena eεbia mobe ye Onyame aye ndaasie mo.} [Suura Baqara:185]
 ena Onyame kesie akasa hajji ho:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197]

{Hajji ye ewo bosomi a yanim mo, na dee yaye hajji nhye ama no no nma no enye adwamaebo anaase boneye anaase akyiniedi ewo hajji mo ena enye adee wo be di dwumadie pa bi agye Onyame enim , ena monyere moho na nokware dwumadie pa ede nyamesro ekaho, ena monstro me oh eye badwenebafoo.} [Suura Baqara:197]
 ena saa esom kesee yi nyinara eno neye dee akomhyafoo nyinara erefre koho Onyame asomdwie nka omo.

25. Islaam somafoɔ ɔnɔ neye Mɔhwammɛd bun Abdallah ɔfiri abusua ye mo Ismaail bun Ibraahiim Onyame asomdwie nka ɔmɔ yawo nɔ ho makka afi 571yesu akyi ena yama nɔ atu amantuo aba madina ena enye adee waka nenkrufɔɔ hɔ efa bosomsom hɔ na emom eye adee ɔka wɔnnom mo wɔ dwumadie esonobo mo ena eye adee a ɔwɔ subae pa yie ansaana yesoma nɔ ena eye adee a nenkrufɔɔ atu nɔ diin se nokorefoɔ'Ameen' ena Onyame esomaa nɔ wɔ emmere wadoru nfie eduanae ena Onyame de ne aaya"sankyireni'atimtim nɔ ɔkesie mo ena quraan kareem nekesie mo enɔ neye akomhyafoɔ aaya sankyireni kesie ena eno neye dee aka efiri akomhyafoɔ aaya mo ekwɔrim nde eda yi mo,ena emmere a Onyame ahye nesom hɔ ema ena somanee ne abɔhɔ daworu Onyame asomdwie nka nɔ dadwene nee yansa awiee ewuo ebaa nesu ewɔ abraa nenfie ye eduasia mmiensa ena yeseɛ nɔ wɔ madina ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ ena ɔnɔ neye akomhyafoɔ ene asomafɔɔ awieye nkata anu,Onyame de tineɛ nasomaa nɔ ene nokore esom sɛdeɛ ebeye a ɔbeye nipa nom afiri esum abosomsom mo ene kaafiriya mo ene tiribonkwɔso ede ɔmɔ erekwɔ Onyame krɔ pɛ hɔ tawoheed nimdie ehae mo ene gyedie'Iimaan'ena Onyame ede adansie ema nɔ se osomaa nɔ se oye Nyamesɛm kanee ewɔ nepɛ mo.

Islaam somafoɔ ɔnɔ neye Mɔhwammɛd bun Abdallah ɔfiri abusua ye mo Ismaail bun Ibraahiim Onyame asomdwie nka ɔmɔ yawo nɔ ho makka afi 571yesu akyi ena yama nɔ atu amantuo aba madina ena enye adee waka nenkrufɔɔ hɔ efa bosomsom hɔ na emom eye adee ɔka wɔnnom mo wɔ dwumadie esonobo mo ena eye adee a ɔwɔ subae pa

ye ansaana yesoma no ena eye adee a nenkrufoo atu no diin se nokorefo'ameen' ena Onyame esomaa no wo emmere wadoru nfi eduanae,Na Onyame kesie no akasa woho:

﴿وَأَنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٍ﴾ [القلَم: 4]

{ "... ena nokware mo wo wo subae pa edemo eye.} [Suura Qalam:4] ena Onyame eye no komhyani ewo emmere a onyenedoruu nfi eduanae ena Onyame de aaya'sankyireni'kesie etaa no akyi ena nekesie neye quraan kareem.ena okomhyani Onyame asomdwie nka no ekaase:<< Yenni efiri akomhyafo mo komhyanii be agye yama no dee ye nensesoo na nipa ayagyedie woho ena nokore dee ye de ama no no ye ayedee yekyire ena Onyame aye ama no na mewo awarehyemo se atamooda wobeba no na dodo na adi woakyi >>Saheehu Bukhari Nwoma mo.ena quraan kesie eno neye Onyame yekyire ayedee ema nesomanee Onyame asomdwie nka no,Onyame kesie akase efa ho:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]

{ Saa nwoma yi entoru naa nnim, eye tinee ema Nyamesrofo } [Suura An-Nisa 82]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]

[النساء: 82]

{ Enti won nfa Kuran Nhoma yi nko adwene dwene mu, na se nka efiri Obi nkyen a onye Onyankropɔn a anka won nyaa nsesaye pii wo mu.} [Suura An-Nisa 82]

ena Onyame ato akansie ne jinni ene nipa entem ewo saa quraan ye se omɔ enfa nensesoo mbra,Onyame kesie akase:

﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِجُنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88]

{ Kase nase mo boa manu nipa ene jinni se mɔpese mo de saa quraan yi nsesoo bi ebaa enye adee a mobetumi ede aba efa nensesoo ena sanko eye adee a eye omɔ emo emo bi mmoa mo } [Suura Israai:88]

ena Onayme ato akansie ama ɔmo efa se ɔmo enfa suura edu mbra efiri nensesoɔ mo, Onyame kesie akase:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَاذْعُوا مِّنْ اسْتَعْظُمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ [هود: 13]

{ Anaase ɔmo erekase eye entoru seremoka, Na monfa efa suura edu nsesoɔ nom bi entoru seremoka nom bi mbra ena monfre deɛ monim se ɔmo ebetumi aboa mo

afiri Onyame akyi nase moye nokorefoɔ } [Suura Hud:13]

ena Onayme ato akansie ama ɔmo efa se ɔmo enfa suura baako pe mbra efiri nensesoɔ mo, Onyame kesie akase:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ [البقرة: 23]

{ ena se motire mo eye mo naa efiri deɛ yasani ama yakoa ene monfa efa suura baako pe mbra efiri nensesoɔ nom bi ena monfre mo adansefoɔ nom nkaho efiri Onyame akyi nase moye nokorefoɔ. } [Suura Baqara:23]

ena quraan kesie eye aaya Onyame nsankyirene krope ena aka efiri akomhyafoɔ aaya sankyireni mo ekwɔpim nde eda yi ena emmere a Onyame ahyema efa nesomanee Onyame asomdwie nka no esom ena wabo esom noho dadwene daworu bo awieɛ ena ewuo ebaa nesu Onyame asomdwie nka no na nenfie ye eduasia mmiensa ena yaseɛ no wo madina nabiyu Onyame asomdwie nka no. ena somafoɔ Mohammed Onyame asomdwie nka no ɔno neye akomhyafoɔ ene asomafoɔ awieye nkata anu, Onyame kesie akase:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ [الأحزاب: 40]

{ enye adeɛ Mohwammed eye moɔ mo kro papa efiri moɔ mbranteɛ yi mo na emom ye Onyame somanii ena akomhyafoɔ awieye, Na Onyame Allah efa biribiara onim. } [Suura Al-Ahzab:40]

Hadiis a yɛnya afiri Abaa Huraira ho Onyame npenie nka nɔ nokware ɔkomhyani Mohammed Onyame asomdwie nka nɔ akase:<< Nokore mensesoɔ ene akomhyafoɔ adikanfoɔ nsesoɔ efiri ansaana mereba etese abrantee bi a wasi edae na wasi no yie ama no ayefe yie agye tokuro bi a ewɔ edae nom,ena Onipa eretwa ho ahyia na eye ɔmo nwanwa yie efa hɔ ena afei ɔmo ereka se: oh sanko ye de bobo bi ekataa kwan yi ? wakase: Na me na meye bobo no ena mena meye akomhyafoɔ awieye anu si >>Saheehe Bukhari Nwoma.ena ewɔ ingyeela 'apam mono' mo Masihi akase Onyame asomdwie nka nɔ wo amaniebo mo efa somanee Mohammed Onyame asomdwie nka nɔ:(eboɔ no dee wagyae no a wanfa anhye edae nom eno neye dee adani efie no ti na emom ɔmo ankenkae no wo nwoma mo anaa:ena ɔkakyire wɔnnom wo Awurade kasa mo na eye whawha ewɔ wɔnnom aniwa so) ena ewɔ apam dada mo safar ewɔ ho ekwɔpim nde eda yi waka wɔmo Onyame kasa mo efa dee Musa aka Onyame asomdwie nka nɔ:(ye betimtim komhyani bi ama mo ɔfiri mɔnua nom bi nsesoɔ na me maasem ahye nanu na wakasa akwire mo wo ahyedee a ye behye nɔ wɔho).ena somafoɔ Mohwammed Onyame asomdwie nka nɔ Onyame de tineɛ ene nokore esom nasomaa nɔ ena Onyame ade neho adansedie wo nokore mu,se ɔwo nokore kwan so ena ɔsomaa no se ɔye ne Nyamesem kani efre Nipa ko nyame nkyen,Onyame kesie akase:

﴿ كُنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾

[النساء: 166]

{ Na nokore mo Onyame ede adanseɛ efa adeɛ a wasani ama wo,ɔsaniye efa nenimdei mo,ena asorobofoɔ su ede adansie,ena esonebo ema Onyame adanseɛ mo.} [Suura Nisaai 166]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾

[الفتح: 28]

{ ɔwo neye dee wasoma nasomaneɛ efa tineɛ ene nokware esom sedee ebe daadi akata esom biara su,esonebo ema Onyame adanseɛ mo [Suura Al-Fatihi 28]

Onyame de tenenee somaa no se ɔbe yi Nipa afiri abosomsom sum ne bonniaye ne fratam mu nko koroyo ne gyidie mu. Onyame krɔnkrɔn nii no akase:

﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: 16]

{Onyame de saa nhoma yi tene Obi a ɔdi nee Onyame ani gye ho wo gyedie ne dwuma pa banbo akwan firi Onyame asotwe ho, na w'ayi wɔn afiri esum mu ako ɔhan mu wo ne tumi mu na w'atene wɔn wo kwantenene no so.} [Suuratu Ai-Maida :16]

Na Onyame krɔnkrɔnii No akase:

﴿ الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [ابراهيم: 1]

{Saa mma meensa yi Onyame nko ara na tease, Oyi ye nhoma y'asane ama wo (ɔsomafoɔ) se wo be yi Nipa afiri bonniaye ne fratam ne yera mu ako ɔhan mu nkramosom wo wɔn wura tumi mu na eno ne Onyame kunimdifoo a ɔfata aseda daa kwan,,} [Suuratu Ibrahim 1]

26. Na nkramosom mmara a ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no ye Onyame nhoma ne ne mmara a etwatoɔ na eye mmara a ahyema na emu na Onipa som ne ne wiase yiedie wo na eye banbo a edekan ma Onipa som ne wɔn mogya ne wɔn sika ne wɔn adwen ne wɔn abusua, na apepa mmara a adenkan nyina ara tese mmara bi nso apepa wɔnkoɔ.

Na nkramosom mmara a ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no, ye Onyame nhoma ne ne mmara a etwatoɔ na Onyame de saa nhoma yi ahye esom no ma na n'adom ahyema wo Nipa so enam se wasoma ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ama Nipa Onyame krɔnkrɔn nii no akase:

﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا...﴾ [المائدة: 3]

{ Enne dua yi m'ahye mo som ma ama mo na me de m'adom adom mo na m'apene nkramosom so ama mo se esom.} [Suuratu Al-Maida 3]

Na nkramosom mmara ye mmara a ahyema na emu na Onipa som ne ne wiase yiedie wɔ, enam se abua mmara a adenkan nyina ara ano na ahye no ma nso Onyame krɔnkrɔn nii no akase:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 9]

{ esipi se saa nhoma yi kuran rekyere kwan tenenee na ε rebɔ agyidifoɔ wɔn di dwuma pa amanebo se wɔn wɔ akatua keseɛ wɔ Onyame nkyɛn.} [suuratu Israa 9]

Na nkramosom mmara ayi adesua a na eda adikanfoɔ so afiri Nipa so Onyankopɔn kaase:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 157]

{...Wɔn a wɔ di ɔsomafoɔ ɔkɔmhyeni no akyi a onnim akenkan na ɔwɔ wɔn atweresem no mu wɔ apam dadaa ne apam mono mu chyɛ wɔn papaye na ɔbra wɔn bonniaye na ɔma wɔn adepa ho kwan na ɔye adefe akwiwadeɛ ma wɔn na ɔyi wɔn adesua ne nkɔnɔnɔnɔnɔn a eda wɔn so afiri wɔn so, na wɔn a agye n'adi na wɔ de obuɔ ama no na w'abua no na wɔn adi ɔhan a y'asane aka no ho no saa nkɔnɔnɔn no ne nkonimdifoɔ.} [Suuratu Al-Araf 157]

Na nkramosom mmara apepa mmara a adenkan nyina ara Onyame krɔnkrɔnii no akase:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾﴾ [المائدة: 48]

{Yasani nwoma ama wo wo nokware so edi nokore adansie ema dee edi nanim ekae efiri nwoma nom ene ahɔbaebo wɔso, Na di asem ewɔ wɔntem efa dee Onyame asani, Na ndi wɔn akoma apedeɛ akyi ewɔ ebra a nokore aba woso, Na wɔn mu biara y'aye mmera ene enhyihyeye ama wɔn, Na se Onyame epe a nanka cyee mo edom baako na emom sɛdeɛ ebe ye a ɔbe sɔ mo a hwɛ afa dee ɔde ama mo no ho, Enam saa nti mɔndi akansie wɔ dwumadi pa ho, Na Onyame nkyɛn na mɔrekwɔ mo nyinara na wabɔmo amanie efa dee na mo redi akyinie wɔ ho.} [Suura Maaida: 48]

Na nhoma krɔnkrɔn (kuran) a nkramosom mmara wɔ mo yi, ye nokware adansiedie ma Onyame nhoma a edenkan na ayi afiri hɔ na apepa saa nhoma no.

27. Onyame ahoteenii kokroko no ngye esom biara gye nkramosom a Ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no, na obibiara a ɔbesom som foforo a enye nkramosom no Onyame ngye saa som no

Onyame ahoteenii kokroko no ngye esom biara wɔ bere a wasoma ne somafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akyi gye neɛ Ɔsomafoɔ no de aba, na obibiara a ɔbesom som foforo a enye nkramosom no Onyame ngye saa Nipa no dwumadie biara. Na Onyame krɔnkrɔnii Nɔ akase:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [آل عمران: 85]

{ Na obibiara a ɔbesom som forɔɔ a enye nkramosom no ye ngye ne ndwumadie daabi da, na atemmuada ɔbe ka nkuguofɔɔ ho.} [Suuratu Al-Imrana 85]

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا يَبِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾﴾ [آل عمران: 19]

{Esipi se, esom a ewɔ Onyame nkyen ye nkramosom na wɔn a ye maa wɔn nhoma no anni akyenyedie gye bere a nimdie no baa wɔn so mpofirim wɔ wɔn ntam, na dee be twa Onyame nsankyerene so nkontompo no esipi se Onyame atemmuo ye ntem.} [Suuratu Al-Imrana19]

Na saa nkramosom yi ye Abraham Onyame dɔfo kwan Nyame nhyira nka no:

﴿وَمَنْ يَرْعُبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾﴾ [البقرة: 130]

{ Na Obibiara mpo Abraham kwan no gye Obi a ɔnnim nekera gyenabere, Nokware ye ayi no ahye no animonyam wɔ wease yi mu, Na esipi se atemmuada nso ɔka apapafoɔ ho.} [Suuratu AL-Bakara 130]

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾﴾ [النساء: 125]

{ Na hwan na esom sompa sene Obi a ɔbe bere n'anim ama Onyame na ɔye dwuma pa na ɔnam Abraham kwan tenenee soɔ, Na Onyankɔpɔn aye Abraham ne dɔfo.} [Suuratu An-Nisa 125]

Na Onyame hyee ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no se ɔnka se:

﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٦﴾﴾ [الأنعام: 161]

{ Ka se esipi se me wura atene me wo kwan tenenee so esom tenenee a ye Abraham kwan tenenee, na na onka abosomsomfo ho } [Suuratu Al-Anam 161]

28. 28- Nhoma krɔnkrɔn yi (Kuran) ye nhoma a eye nkɔmhye ma Ɔsomafo Mohammed Nyame nhira ne n'asomdwie nka no na eye abɔde nyina wura asem Ɔye no akan si ma Nipa ne Motea se won nfa ne seso mmera ana Suura tese emu Suura na saa akan si yi daso wo ho besi nne, na nhoma krɔnkrɔn yi yi nsem busa pii ano a Onipa ɔpɛpɛm nhu ano yie, na nhoma krɔnkrɔn yi sombo ye de Arab kasa abɔho ban kasa a ye de sanee ye na y'anyi aba biara anfiri mu, na eye nhoma a ahwete babiara, na eye nhoma a esombo ye anwonwade efata akenkan, ye akyere ase saa pɛpɛe pɛ na Ɔsomafo Mohammed Nyame nhira ne n'asomdwie nka no nso anamontuo ne ne nkyerɛkyerɛ ne n'abakɔsem nso ye abɔhoban, Na asuafo nokwarefo sua firi ne ho kyere nkyeri mma na eye nhoma a yede Arab kasa na atwere na ewo asekyere wo kasa pii mu na nhoma krɔnkrɔn (Kuran) ne Ɔsomafo no anamontuo (sunah) ye ntini anaa ahyasee ma nkramosom mmara ne ne nhyehyee, nti nye nkramosom ne Obi suban mmom ye gye nkramosom firi Onyame nkɔmhye mu :nhoma a esombo ne Ɔkɔmhyeni anamontuo.

Kuran Nhoma krɔnkrɔn yi ye Nhoma a Onyame de hyee Ɔsoma nii Arab nii Mohammed nkɔm wo Arab kasa mu, Na eye Abɔde nyina wura kasa, Na Onyame krɔnkrɔnii No akase:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [الشعراء: 192-195]

{Na esipi se ye sanee saa nhoma yi firi abodee nyina wura nkyen(192)Obofof gabera na de sanee (193) Esanee baa wo so (w'akuma) se wo be ka kokobofof ho(194) Esanee wo tekyerema a eye Arab kasa mu(195) } [Suura hyuara 192 195]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَى الْفُرَّانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾﴾ [النمل: 6]

{... Na esipi se wo gye saa nhoma yi firi Atemmuafof a wo biribiara ho nyansa Nimdifof a wo biribiara ho nimdie.} [Suura An-Namil 6]

Na saa Nhoma yi (Kuran) firi Onyame nkyen na edi nokware adansedie fa Onyame nhoma a adi n'anim kan ho.Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ

الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾﴾ [يونس: 37]

{ Na saa Nhoma yi (Kuran) ntumi nfiri obibiara nkyen mmom edi nokware adansedie fa Nhoma a adin kan ho, na eye nkyeremyere fa nee ye akyiwadee ne nee nye akyiwadee ho firi abodee nyina wura nkyen } [Suura Yunus 37]

Nhoma a esombo yi (Kuran) ye nkyeremyere pii fa nsem a akristofa ne gyewfo dee ho akyenyedie wo won som mu,Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾﴾ [النمل: 76]

{ Esipi se saa Kuran Nhoma yi rekyere Israel mma nsem pii a won redi ho akyenyedie.} [Suura An-Namil 76]

Kuran Nhoma a esombo yi nyinaso pii wo mu ma Nipa nyina ara, wo kwan a won be hu nokware a efa Onyankropɔn hoteenii kokroko no ho, ne ne som, ne n'akatua,Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 27]

{ Nokware nokware y'aye nhweso biara bi wɔ Kuran Nhoma yi mu ama Onipa sɛdeɛ ɛbɛ yɛ a wɔn de bɛyɛ nkaekaeɛ akaekae.} [Suura Az-Zumar 27]

Na waka sɛ:

﴿... وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّبُنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]

{ Na yɛ sanɛɛ Nhoma yi maa wo sɛ nkyerɛkyerɛ ma biribiara, Na ɛyɛ teneneɛ ne mmɔborohunu ne nkuranhyɛ sɛm ma Nkontompofɔɔ.} [Suura An-Nahl 89]

Kuran Nhoma krɔnkɔn yi bua nsem busa a ɛhea pii a Nipa ɔpɛpɛm ntumi yi ano, Kuran Nhoma krɔnkɔn kyere sɛdeɛ Onyame bɔɔ Ɔsoro ne Asase, Onyame krɔnkɔnii No akasɛ:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: 30]

{ Enti a bɔneɛfɔɔ nhu anikan sɛ na Ɔsoro ne Asase bom na yɛ tetee mu, Na y'aye nsuo nkwa ama ɔteasefo biara, Na wɔn ngye nni anaa } [Suura Al-Anbiya 30]

Na sɛn na Onyankrɔpɔn bɔɔ Onipa, Onyame krɔnkɔnii No akasɛ:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً ۖ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ﴾ [الحج: 5]

{Oh Onipa eii sɛ mo gye akyinnye wɔ ɔwusɔre da no ho a, esipi sɛ yɛ bɔɔ mo firi dɔtɛɛ mu san firi nkwaɔba mu san firi mogyafua mu san firi nam a ahyɛma ne deɛ atɔsɛne mu sɛdeɛ yɛbɛ da yɛn tumi adi akyerɛ

mo, Na ye nee yepe ka awodee no mu kɔpim bere pɔtee bi, Afae na y'ayi mo apue abofra na mo aduru mo mmerante bere, na ye kum mo mu bi, na binom nso anyin kɔpim nkokorabere a ɔnnim nee na ɔnim dada no, Na wo behu Asase se awo hwee nni so na se yetɔ nsuo gu so a na aposo ma emu nnɔbaee ne nnua a Onipa anigye ho nyina ara repuepue.} [Al-Hajj 5]

Na dwanekɔbea wɔ hene, Na edeen ne ɔpapafɔ ne bonniaye nii akatua wɔ asetena yi akyi, na y'aka saa nyinasoɔ wɔ krataa fa a etɔso (20) Enti asetena yi baa kwa anaa enam botae kesee bi nti?Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ

قَدْ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ۗ قِيَامِي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

{Enti saa nkontompofɔ yi nhwe Ɔsoro ne Asase ahennie mu, Ne nee Onyame abɔ wɔ ntam, Na wɔn nhwe wɔn nkwa a aka kakra na wɔn ako ɔsaae mu, Na kɔkɔbɔ asem ben na wɔn gyedi wɔ Kuran Nhoma yi nsem akyi bio} [Suura Al-Araf: 185]

Na waka se:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]

{Enti mo susu se yeɔɔ mo saa ara kwa na yen kyen na yensan nfa mo mma anaa } [Suura Al-Munun: 115]

Na Kuran Nhoma a esombo yi yeɔe Arab kasa abɔ ho ban besi nne kasa a esanee wɔ mu, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

{Esipi se yen na yesanee nkaekae no, na esipi se yen na yebe bɔ ho ban } [Suura Al-Hudwurat 9]

Aba biara nfiri mu, na eye dene nso se emu nsem be tea yɔnkɔ anaa se eso bete anaa nsesaye be wɔ mu. Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

[النساء: 82]

{ " Enti wɔn nfa Kuran Nhoma yi nko adwene dwene mu, na se nka efiri Obi nkyen a ɔnye Onyankropɔn a anka wɔn nyaa nsesaye pii wɔ mu.} [Suura An-Nisa 82]

Na eye Nhoma a, atintira apete, Nhoma a, edimu ye nwanwa, n'akenkan anaa ne tie anaa ne nkyerɛase akenkan fata ma Obibiara, tese sɛdeɛ Ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no, nsem ne, ne dwumadie akwan (Sunnah) ne, ne nkyerɛkyere ne n'abakɔsem ye adeɛ a y'abo ho ban, na mmerima a, wɔn ye nokware na aboano firi nokwarefoɔ nkyen, na atintira wɔ Arab kasa a eye Ɔsomani no kasa, Na ewɔ asekyere pii wɔ kasa horoɔ mu, na Kuran Nhoma kronkron Ɔsomani no nsem ne n'akwan, mienu yi ne Nkramosom mmera ne ne nkyerɛkyere ahyaseɛ, Na Nkramosom nye ɔbaakofoɔ bi subanbɔne, na mmom Nkramosom suban firi Onyame nkɔmhye a y'abo ho ban mu, Kuran Nhoma keseɛ ne Ɔkɔmhyeni nsem ne ne nkyerɛkyere, Onyame ka fa Kuran Nhoma no ho se:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطُلُ مِنْ بَيْنِ

يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ [فصلت: 41-42]

{Esipi se wɔn a atwa Kuran Nhoma no so nkontompo wɔ bere a aba wɔn nkyen, na esipi se eye nkunimdie Nhoma a enni nkuguo, na nkontompo sem nim, nsesaye nim sentɔ nim, Esane firii Ateɔmmuafoɔ Nyansafoɔ a ɔfata aseda daa nkyen} [suura Al-Fussilat: 41 42]

Onyame kokroko ka faa Ɔkɔmhyeni anamontuo ho se eye nkɔmhye a efiri Onyankropɔn nkyen:

﴿... وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ [الحشر: 7]

{... Na deɛ Ɔsomafoɔ de abere mo no, mo somu yie, na deɛ wabra mo wɔ ho nso mo ngyae, na mo nsuro Onyankropɔn, Esipi se Onyame asotwe ye dene yie.} [suura Al-Hahyir: 7]

29. Nkramosom rehye Nipa se wɔn ye awofɔ papa empo se wɔn nye nkramofo na wɔn ye mmɔfra nso papa..

Nkramosom rehye Nipa se wɔn ye awofɔ papa na Onyame kaase:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يَبْتَلِغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾ [الإسراء: 23]

{Na wo wura ahyehye aye no nhye se, mma mo nsom biribiara gye Ono nko ara, na mo nye awofɔ papa, Se wɔn mu baako anaa wɔn mienu nyina ara panyin mere to wo a, menka (uff) kasafi nkyere wɔn, na mentetee wɔn, na ka kasapa kasa krɔnkrɔn kyere wɔn.} [Suura Al-Isra: 23]

Na Onyame krɔnkrɔnii No akase:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي شَامِئٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾﴾ [لقمان: 14]

{ Na ye ahye Onipa se onye n'awofɔ papa ɔmaame faa no afuro wɔ bre ne yaw a bre ne yaw de akyere, Na bere a ɔnom nofosuo ye afe mienu, Na ye hyee no se fa aseda ma me ne w'awofɔ na me nkyen ne sankɔbia.} [Suura Lukman: 14]

Na Onyame krɔnkrɔnii No akase:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾﴾ [الأحقاف: 15]

{"Na ye ahye Onipa se onye n'awofɔ papa ɔmaame faa no afuro wɔ bere ne yaw mu, Na woo no wɔ bere ne yaw mu, Na bere a ɔdee wɔ ɔmaame yam ne bere a ɔde nom nofoɔ ye nna aduasa, Kɔpim bere a waduru ne aberante bere mu na wanya mfie aduonan saa bere no ɔka

se me Wura bua me na me nna wase wɔ adum a w'aye ama me ne m'awofo, Na ma me nye dwumadi pa a w'ani gye ho, Na ye me mmɔfra mmɔfra pa, Esipi se m'asakyera aba wo nkyen na esipi se me nkramofoɔ ho a mede me ho atwere wo"} [Al- Suura Al-Ahkaaf: 15]

Abu Huraera Onyame anigyee nka no kaase: Aberantee bi baa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nkyen na Ɔkaa se : Onyame somafoɔ aii hwan ne Nipa a ɔfata se me ye no papa wo m'asetena mu? Ɔkaa se: (wo maame), Na ɔsan busaa se: hwan bio? Ɔkaa se: (wo maame bio), Na ɔsan busa se: hwan bio? Ɔkaa se: (wo maame bio), ɔsan busa se: hwan bio? Ɔkɔmhyeni kaa se: (wo papa).Musilimu NhomaNa wae ye ɔhye a efa awofo ho se wɔn ye nkramofoɔ anaa se wɔn nye nkramofoɔ.Na Asmaa Abu Bakar babaa kaa se: (me maame baa me ho na ɔye bosomsom nii wɔ bere a Kuraehye abusua ne Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahye yɔnko bɔ, na neba ka ne ho, na me busaa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no se: Esipi se me maame aba me ho a ɔpe se me ben no na me ye no papa, Na afae me sera no pii enti me nnye saa anaa?) Ɔkɔmhyeni kaa se: (aane kɔkɔsera wo maame).Buhari NhomaMmom se awofo mienu bɔ wɔn ho moden se wɔn abɔfra nfiri Nkramosom mu nko som foroɔ mu a, Esipi se Nkramosom rehye no wɔ saa tebea yi mu se mma no ntie wɔn, Na ɔngyena ne gyedie so, Na ɔnye wɔn mienu papa, Na Ɔne wɔn ntena asetenapa.Onyame kɔnɔnɔnii No akase:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ ثُمَّ إِلَيْكَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: 15]

{Na se wo awofoɔ bɔ mmɔden hye wo se som beribi a wo nni ho nimdie ka me ho a mentie wɔn, Na wo ne wɔn ntena asetenapa wɔ wease yi mu, Na fa wɔn a asakyera aba me nkyen no kwan so, Afae nso me nkyen ne mo sankɔbia na m'abo mo, mo dwumadie ho amanee.} [Suura Lukman: 15]

Nkramosom nsi kramoni kwan se ɔbedi dwumadipa ama n'abusua a wɔn ye abosomsomfoɔ anaa wɔn a wɔn nye n'abusua se wɔn nko ntea no dee:

﴿ لَا يَنْهَأَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ [المتحنة: 8]

{Onyankropɔn Allah nsi mo kwan se mo be da anidie obuo ne pɛrɛpɛrɛ yɔ adi ama wɔn a, wɔn anko antea mo na wɔn anyi mo wɔ mo tenabea mu, Esipi se Onyankropɔn Allah pɛ wɔn a eyɛ pɛrɛpɛrɛ wɔ wɔn kasa ne wɔn dwumadie mu asem..} [Suura Mumtahina: 8]

Nkramosom hyɛ Awofɔɔ se wɔn ma wɔn mmɔfra ntetɛɛ pa titirw neɛ Nkramosom hyɛ Awofɔɔ ne se wɔn nkɛyɛrɛ wɔn mmɔfra wɔn Wura asɛdɛɛ a ɛda wɔn so, tɛsɛ sɛdɛɛ Ɖkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ka kyɛrɛ ne wɔfa ba Abdallah a ɔpapa ne Abas Onyame ngye wɔn tum se: Oh Abarimaa anaa Abarimaa ketewa enti me nkɛyɛrɛ wo nsemfua a Onyame de be bua wo? Na me kaase: aane. Na Ɖkaa sɛ: Bɔ Onyame mmera ho ban na Ɖbe bɔ wo ho ban, Bɔ Onyame mmera ho ban na Ɖbedi wo anim kan, hu Onyame wɔ anigyɛɛ bere mu na Ɖbe boa wo wɔ ahokɛyɛrɛ bere mu, Na se wo busa a busa Onyankropɔn na se wo hwehwe mmɔa a hwehwe firi Onyankropɔn nkɛyɛn. Ahmed Nhoma 4/287 {Na Onyame ahyɛ Awofɔɔ se wɔn kyɛrɛ wɔn mmɔfra neɛ be boa wɔn wɔ, wɔn som ne wɔn wiase asetena mu}. Na waka se:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ [التحریم: 6]

{ Oh Agyidifɔɔ eii mo bɔ mo kra ne mo abusua ho ban nfiri Ogya dareɛ a Nipa ne Aboba na ɛsɔ ano, Abɔfɔɔ ahɔɔdenfɔɔ na wɔn nyɛ asɔɔdene wɔ neɛ Onyame ahyɛ wɔn, Na wɔn ye neɛ Ɖhyɛ wɔn..} [Suura Attahrim: 6]

Na Ali Onyame ngye no ntum ma yen kasa faa Onyame kokroko asem yi ho se: { Mo mmɔ mo kra ho ban ne mo yere ne mmɔfra ho ban nfiri Ogya dareɛ no ho } Ɖkaa sɛ: mo ma wɔn ntetɛɛ pa ne nimdie. Na Ɖkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahyɛ awofɔɔ se wɔn nkɛyɛrɛ wɔn abɔfra mpaeɔɔ (salla) sɛdɛɛ ɛbe ye a ɔbe nya ntetɛɛ wɔ so, Na Ɖkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no kaa sɛ: (Mo nyɛ mo mmɔfra mpaeɔɔ (salla) bere a wɔn ye afe nson mmɔfra). Abu Dawuda

Nhoma mu,Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Mo nyina ye ahwesofɔɔ na mo nyina beyi nsembusa ano wɔ mo nhwesodee ho, Ɖkandinii ye hwesofɔɔ na ɔbe bua nsem ano wɔ ne nhwesodee ho, Na Berema ye ɔhwefɔɔ wɔ n'abusua mu, Na ɔbe bua nsem ano wɔ ne nhwesodee ho, Na Ɖbaatan nso ye hwesofɔɔ wɔ ɔkunu fie na ɔbe bua nsem ano wɔ ne nhwesodee ho, Akoa nso ye hwesofɔɔ wɔ ne wura sika so, na ɔbe bua nsem ano wɔ ne nhwesodee ho, Mo nyina ye ahwesofɔɔ na mo nyina beyi nsem ano wɔ mo nhwesodee ho.Ibin Hibban Nhoma 4490

Na Nkramosom ahye awofɔɔ se wɔn yi sika nhwe wɔn mɔfra ne abusuafo, Na y'aka nsem yi wɔ krata fa a etso (18),Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akyerekyerɛ mmɔfra hwe ho nfasɔɔ na Ɖkaa se:Sika a edi mu a Obi be yi ye, Sika a Ɖbe yi ama ne yere ne ne mmɔfra, Ne Sika a Ɖbe yi ahwe n'abua wɔ Nyame kwan so, Ne Sika ɔbe yi aboa ne yɔnkofɔɔ wɔ Nyame kwan so, Abu Kilaabata kaa se:(Na ɔde mmɔfra ne yere na adinkan afae Abu Kilaabata Kaa se:Na berema ben na wɔ nhyira pii sene berema a ɔyi sika hwe mmɔfra anaa Onyame nam ne so boa wɔn ye wɔn apedeɛ.Musilimu Nhoma 994

30. Nkramosom rehye Nipa perepere yɔ wɔ kasa ne dwumadie mu mpo se Nipa no ye Otamfo koraa.

Onyankropɔn hoteɛ nii kokroko no ahyensodeɛ ne perepere wɔ ne ndwumadie mu, ne nsesaye a ewɔ ne nkoa ntam, na Ɖno na wɔ kwan teneneɛ, wɔ neɛ wahye ne neɛ wa bera ne nkoa wɔ ho, neɛ wa bɔ ne neɛ wa hyehy:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: 18]

{Onyankropɔn adi adanse se Onyame biara nni hɔ ɔfata ɔsom wɔ nokware mu gye Onyankropɔn baako pe, Na Abɔfɔɔ ne nimdifɔɔ nso di adanse, na nimdifɔɔ gyena pintee wɔ perepere yɔ mu, Nyame biara nni hɔ a ɔfata ɔsom wɔ nokware mu gye Onyankropɔn baako nkunimdifɔɔ ne ɔnyansafo Nyame.} [Suuratu Al-Imrana /18]

Na Onyame rehye Onipa perepere yo Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...﴾ [الأعراف: 29]

{ Ka se me Wura mo perepere yo. } [Suura Al-Aaraf: 29]

Na Asomafoɔ ne Akɔmhyefoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn, wɔn nyina ara de ntɛntrene na aba, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

...﴾ [الحديد: 25]

{ Nokware ye de nkyerɛkyere asoma yen Asomafoɔ, Na ye sanee Nhoma kaa wɔn ho, Ne nsenia se Nipa beye perepere wɔ asaase so..} [Suura Al-Hadiid: 25]

Na Nsenia eye perepere yo wɔ kasa ne dwumadie mu. Na Nkramosom rehye Nipa perepere yo wɔ kasa ne dwumadie mu mpo se Nipa no ye Atanfo koraa, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُوا أَوْ

تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 135]

{Oh Agyidifoɔ a mo agye Nyame atum mo nyinahɔ pintee wɔ perepere yo adansedie mu Nyame nti, Se adansedie no tea mo kera anaa mo awofo anaa mo abusua, Se Onipa no ye Sika nii anaa Ohea nii na Onyankropɔn kyen wɔn mienu, enam saa nti mendi akoma apedeɛ akyi nkweɛ perepere yo, Na se mo sesa nokware adansedie anaa mo dane mo akye a esipi se Onyankropɔn na bebɔ mo amanee wɔ deɛ mo reye nyina ara ho amanebɔ.} [Suura An-Nisaa: 135]

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

[المائدة: 2]

{Na ma mo mma εdɔm a wɔn asi mo Nyamefie ho kwan no, ho tan nsi mo pɛrɛpɛrɛyɛ wɔ wɔn mu, na mo bua yɔnkɔw wɔ dwumapa ne Nyamesuro kwan so, na ma mo mbua yɔnkɔw wɔ bɔne ne ɔtan kwan so, esipi sɛ Nyankɔpɔn asotwe mu yɛ dene yie} [Suura Al-Ma"ida: 2]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا

تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ﴾ [المائدة: 8]

{ Oh Agyidifoɔ eii mo nyina pintee wɔ Onyame asɛdeɛ so mo nye adansedifoɔ wɔ pɛrɛpɛrɛ mu, Na ma mo nfa Obi ho tan ngyae pɛrɛpɛrɛ yɔ, mo yɛ pɛrɛpɛrɛ na εno na ben Nyame soro.} [Suura Al-Maidah:8]

Enti wo bɛ nya ɔhyɛ yi nseso wɔ Nipa dɔm bi mmera mu nne dua yi anaa ɔsom bi mu a, εrɛhyɛ nokware adansedie ne nokware asem sɛ εtea wo kra ne w'awofoɔ ne w'abusua, Na εrɛhyɛ pɛrɛpɛrɛ yɔ wɔ ɔtamfo ne ɔyɔnkɔ ntam. Na ɔkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahyɛ sɛ yɛ pɛrɛpɛrɛ wɔ mmɔfra ntam. Na Aamir aka sɛ: m'ate sɛ Bahyir ba Numan Onyame ngye wɔn tum reka wɔ bere a ɔgyina afutuo gyinabea sɛ: Me papa akyɛ me akyedɛɛ bi, Na Amiratu a ɔyɛ Rawaahata ba baa kaa sɛ: me ntease kɔpim sɛ wo bɛ ma ɔsomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no adi adansedɛɛ na ɔbaa ɔsomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nkyɛn na ɔkaa sɛ: esipi sɛ m'ama me ba a ɔfiri Amrata, Rawaahata ba baa akyedɛɛ, Na ɔhyɛɛ me sɛ me yɛ wo Adanse nii Onyame Somafoɔ, ɔkaa sɛ: (w'ama wo mma a aka no akyedɛɛ yi bi?) ɔkaa sɛ :daabi. ɔkaa sɛ:(Mo nsoro Onyankropɔn na yɛ pɛrɛpɛrɛ wɔ mo mmɔfra ntam), ɔkaa sɛ: enam yie nti ɔsan n'akye kɔ faa n'adekyede no. Al-Buhari Nhoma 2587

Enam sɛ Onipa dwumadie ne ne man mu asetena nye yie gye pɛrɛpɛrɛ da adi, na Onipa nya ahotɔ wɔ wɔn som ne wɔn mogya ne wɔn abusua ne Obuo ne wɔn sika ne wɔn man mu gye pɛrɛpɛrɛyɔ daadi, enam oyi nti ɔkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no bere a Makafɔw atɛtɛɛ no yɛ pii wɔ Nkramofoɔ so no, ɔkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no hyɛɛ wɔn sɛ wɔn ntu batatuo nkɔ (Ethiopia) na ɔkyɛrɛɛ wɔn mu sɛ esipi sɛ ɔhene bi wɔ kurom hɔ a ɔyɛ pɛrɛpɛrɛ ni na yɛ nsisi Obi wɔ ne nkyɛn.

31. Nkramosom rehye Nipa se wɔn ye papa ma abɔdee nyina ara na eferere kɔ suban pa ne dwuma pa ho.

Nkramosom rehye Nipa se wɔn ye papa mma abɔdee nyina ara:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ۗ ﴾ [النحل: 90]

{ Esipi se Onyame rehye Onipa pɛpɛpɛ ye wɔ ne papaye ne adɔye ma n'abusua..} [Suura An-Nahal:90]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِبِينَ الْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ۗ ﴾ [آل عمران: 134]

{"... Wɔn a wɔyi wɔn sika wɔ anigyeɛ ne ahokyerɛ merɛ mu, na wɔn ye denn wɔ abufuo ho, na wɔn de Nipa mfomso kye, Na Onyankropɔn pɛ arapafoɔ asem.}[Suuratu Al-Imrana /134]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:{Esipi se Onyame atwere papa wɔ biribiara so, Se mo rekum mmua a mo nkum wɔn wɔ papa kwan so, Na se mo retwa wɔn nso a mo ntwɔ wɔn wɔ papa kwan so, Na Nipa ɔretwa no nse ne nkrante anaa akode yie, Na ɔma n'abua no ahoto}.Musilimu Nhoma 1955

Nkramosom referɛ kɔ suban pa ne dwuma pa ho, Onyame kokroko aka Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahyensode wɔ adikanfoɔ Nhoma mu:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ ﴾ [الأعراف: 157]

{"...Wɔn a wɔ di Ɔsomafoɔ ɔkɔmhyeni no akyi a ɔnnim akenkan na ɔwɔ wɔn atweresem no mu wɔ apam dadaa ne apam mono mu ɔhye wɔn papaye na ɔbra wɔn bonniaye na ɔma wɔn adepa ho kwan na ɔye adefe akyiwadeɛ ma wɔn na ɔyi wɔn adesua ne nkɔnsɔnkɔnsɔn a eda wɔn so

afiri wɔn so, na wɔn a agye n'adi na wɔ de obuo ama no na w'abua no na wɔn adi ɔhan a y'asane aka no ho no saa nkrɔnfoɔ no ne nkonimdifoɔ.} [Suuratu Al-Araf 157]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Oh Aihyatu esipi se Onyankropɔn ye mmere na Ɖpe nneye a eye mmere na Ɖma ho akatua a Ɖmma saa akatua no wɔ aneedene so, anaa adefoforo bi so).Musilimu Nhoma 2593

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< Nokore Onyame Allaah aye akyirewadee bi amamɔ: anidee subae bone wɔ mɔ awufɔɔ nom so ena mɔnba nmaa nom entetiee bone ena nma mɔnkyere wɔnnom ena entae ɔmɔ ena yapɔ ama mɔ efiri yesii ne mesii ene asenbosa dodɔɔ ene sika agyapadie seiyye >>Bukhari Nwoma mo 2408.

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Mo nko turo no mu gye mo wɔ gyedie, Na mo nya gyedie nso gye mo dodɔ mo ho, Enti me nkyere mo ade a se mo ye a, mo be dodɔ mo ho? Mo nfa asomdwoe nkyeakyea mo ho.Musilimu Nhoma 54

32. Nkramosom rehye Nipa suban pa tese nokware, ahwesodee ho banbɔ, nhyesoɔ, feree, akukuduro, adɔye, obuo mmɔborohu nii mmua, ɔnnibie mmua ne Obi a kɔm de no mmua, na fa suban pa ne wɔn a ete ben wo ntena, Na srasra w'abusua, na hu mmua mmɔbɔ.

Nkramosom rehye Nipa suban pa Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Esipi se ye somaa me se me nhye subanpa ma pepe)Adabaul Mufrad Nhoma 207 Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Esipi se mo mu dee me dɔ no,dee ben me tenabea atemmuada ye dee wɔ subanpa, Na esipi se mo mu dee meppe no,na ɔwɔ akyirikyiri atemmuada ye wɔn a eka aseresem,wɔn a edi Nipa ho few, wɔn a etu wɔn ho, Asuafoɔ busaa se: yenim mienu a edinkan no,Na hwan ne wɔn a etu wɔn ho? Na Ɖkaa se: wɔn a eye akasesem).Silsilatu Sahiha 791

Abdullah Umar ba Onyame ngye wɔn tum akase: Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nni subanfo na Ɖnka kasafo, Na Ɖrekase: Esipi se mo mu Nipa pa ye dee kyen mo suban pa.Al-Buhari Nhoma 3559

Ne afoforo a aka wɔ Onyame nsem ne Ɖkɔmhyeni nsem a erekyere se Nkramosom rehye nkuranhye fa suban pa ne dwumadi pa ahorow nyina ara ho. Na nne Nkramosom rehye bi nso ne nokwaredie,Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Eye nhye wɔ mo so se moka nokware, Na esipi se nokware tane Nipa kɔ papaye, Na esipi se papaye tene kɔ turo no mu, Na Onipa be kɔso aka nokware Na ɔbe pe nokware kɔrim se yɛbe twere ne den wɔ Onyame nkyen se Nokwarefoɔ).Musilimu Nhoma 2607

Na nee Nkramosom rehye bi ne se Nipa nfa ahwesodee mma ne wura, Onyame krɔnkɔn nii No akase:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...﴾ [النساء: 58]

{ Esipi se Onyankopɔn rehye Onipa se wɔn nfa nhwesodee mma wɔn ewɔ wɔn....} [Suura An-Nisa: 58]

Na nne Nkramosom rehye bi nso ne nhyesoɔ,Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Nipa mmiensa asɛdee da Onyame so se Ɖbe bua wɔn, Na Ɖkaa Awarefoɔ a, wɔn pe se wɔhye wɔn ho so.Sunan At-Tirmizi Nhoma 1655

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no mpaɛɔ bi ne se Ɖrekase:Me Wura me hwehwɛ tenenee ne Nyame soro, ne nhyesoɔ ne ahonyadee firi wo nkyen.Musilimu Nhoma 2721

Na nee Nkramosom rehye bi ne fereɛ, Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Fereɛ nfa biribiara mma gye adepa nko ara).Buhari Nhoma 6117

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Ɖsom biara wɔ suban na Nkramosom suban ye Fereɛ).Al-Baihaki Nhoma Hyiibul Imaan 6/2619

Na nee Nkramosom rehye bi ne akukuduro, Na Anas Nyame ngye no ntum ma yen kasa se: Na ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ne Nipa mu papa, Nipa mu kukudurofoɔ, Nipa mu adɔyefoɔ, Na nokware Madina manfoɔ boɔ ho bere a wɔn hu se ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no adinkan wɔ pɔnkɔ foro mu. Buhari Nhoma 2820

Na ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no hwehwe banbo firi Onyame nkyen fa soro ho na ɔtaa reka se: (Me Wura me hwehwe ntwutwagyee wɔ wo nkyen firi Soro ho). Al-Buhari Nhoma 6374

Na nee Nkramosom rehye bi ne se adɔye ne obuɔ, Onyame krɔnkɔn nii No akase:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261]

{Obi a, ɔyi ne sika wɔ Nyame kwan so nfantho tese aduaba baako a, aififi ayi nnua nson, Na dua baako biara no nnuaba ɔha na wɔ so, Na Onyankopɔn Allah ye no mmɔho ma Obi a ɔye, Na Onyankopɔn Allah ye nimdifoɔ a ne nimdie tɔeyie.} [Al-Bakara 261]

Na ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no suban ne se ɔye adɔye, Na Abas ba Onyame ngye wɔn tum akase: Na ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ye adɔye sene Nipa biara, Na bere a, na ɔkye adee yie ye Akɔmkyene Bosome no mu bere a, ɔhyea ɔbofoɔ Gabera, Na ɔbofoɔ Gabera Onyame asomdwoe nka no hyea ɔkɔmhyeni wɔ anadwo biara wɔ Akɔmkyene Bosome mu, ma ɔkɔmhyeni kenkan Kuran Nhoma no ma no tie kɔpim se Bosome no be wo, Na se ɔbofoɔ no be hyea ɔkɔmhyeni a ɔye papaye ne adɔye sene nframa. Al-Buhari Nhoma 1902

Nkramosom rehye Nipa suban pa tese mmɔborohu nii mmua, ɔnnibie mmua ne Obi a kɔm de no mmua, na fa suban pa ne wɔn a ete ben wo ntena, Na srasra w'abusua, na hu mmua mmɔbo. Na Abdullahi eye Amuru ba Onyame ngye wɔn tum akase: Aberantee bi busa ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no se: Suban ben na eye na edimu wɔ

Nkramosom mu? Ɖkaa se: Wo be ma dee ekom de no aduane, Na wakyea dee wo nim no ne dee wo nnim no. Buhari Nhoma 12

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: (Bere a Aberema bi nam kwan so reko, Nsukom yee dene wo ne so, na Ɖnya Abura bi, Na Ɖsii mu nom nsuo, Na Ɖfi mu na Ɖhuu Kraman a ɔrehomi na ɔredi dotee enam nsukom nti, Na Aberanteɛ no kaa se: nokware nsukom a aka Kraman yi te se nee kaa me, Na Ɖsii Abura no mu bio saa nsuo wo ne mpaboa mu ma, de nano soɔ mu pueye na Ɖmaa Kraman nsuo, Na Onyame hyiraa no de ne boɛe kyee no) Na asuafoɔ no busaa se: Enti ye wo nhyira wo mmua ho? Na Ɖkaa se: Aane, biribiara a ewo Akuma a mogya wo ho. Ibin Hibban Nhoma 544

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Obi a ɔdi Okunafo ne Ohiani mmoa ho akɔneaba no tese Obi a ɔko wo Nyame kwan so anaa Obi Ɖgyina ye asɔre anadwo na ɔye akɔmkyene awia. Buhari Nhoma 5353

Nkramosom resi Abusua asedeɛ so dua, na waye Abusuafoɔ nsrahwe nhye wo Nipa so, Onyame krɔnkɔn nii No akase:

﴿التَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ {6} [الأحزاب: 6]

{Ɖkɔmhyeni na agyidifoɔ do no sene wɔn kra, Na n'ayerenom ye wɔn awofoɔ, Na abusuafoɔ nso ebi gyenabere sene bi wo Onyame Nhoma no mu, firi Agyidifoɔ ne Atukɔtenafoɔ, gye se mo di dwumadipa ma m'adɔfoɔ, Na wae ye nsem wo atwere Nhoma no mu.} [Suura Al-Ahzab: 6]

Na wabo kɔkɔbo afa abusua ntamteteɛ ho na Ɖde totoo adesee ho, Onyame krɔnkɔn nii No akase:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّىٰ أَبْصَرَهُمْ﴾ {23} [محمد: 23-22]

{ Na mo pe se, mo twa mo ani, na mo dane mo akyi ma Nyame dwuma, Na mo dane Ɔsɛɛsɛfoɔ wɔ Asase yi so na mo tete abusua ntam. Saa nkrɔnfoɔ ne wɔn a Onyame anome wɔn, aye wɔn osotifo, afera wɔn ani. } . [Suura Mohammed: 22-23]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: (Obi a ɔtete abusua ntam nkɔ Onyame turo no mu).Musilimu Nhoma 2556

Na Abusuafoɔ a,wɔn nsera ye nhye ne: Awofɔɔ, ne anuambarima, ne anuambea, ne papa nuabarima ne papa nuambea, ne wɔfa ne maame nua mbea.Na Nkramosom si ɔyɔnko ɔte ben wo asɛdeɛ so dua, sɛ mpo ɔnye Kramo nii koraa:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36]

{Na mo nsom Onyankopɔn na ma mo nsom biribiara nka ne ho, na mo nye Awofɔɔ papa ne Abusua ne Ahiafoɔ ne Abusuafoɔ a wɔn te ben wo, ne wɔn a emben wo, ne ɔyɔnko a ɔka wo ho wɔ akwantuo mu, ne ɔkwantuni ne mmaa a w'anya wɔn ako akyi, Esipi sɛ Onyankopɔn mpe obibiara a ɔye akasesem na ɔtu ne ho.} [Suura An-Nisa: 36]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Ɖbɔfoɔ gabera kɔɔ so kaa afutusem kyerɛɛ me wɔ neɛ te ben me, Kɔpim sɛ me susu sɛ Ɖbe di m'adeɛ.Abu Dawud 5152.

33. Nkramosom ama adepa ho kwan, wɔ nnuane ne anonenom ahorɔɔ, Na ahye akoma ne honam ne efie Ahonidie, Na enam saa nti.

Nkramosom ama adepa ho kwan, wɔ nnuane ne anonenom ahorɔɔ, Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Oh Onipa eii esipi sɛ Onyankopɔn Allah hoteɛ nii na Ɖmpe biribiara gye deɛ ho nte, Na esipi sɛ Onyame ahye agyidifoɔ adeɛ a wahye Asomafoɔ na Ɖkaa se: {Oh Asomafoɔ eii mo ni nnuanepa, Na mo ye dwumadipa, Esipi sɛ me wɔ nimdie wɔ ade a mo reye nyina ho}.na Onyankopɔn krɔnkrɔn aka

se: {Oh Agyidifoɔ eii mo ni nnuane pa a ye de adom mo, Na mo nfa aseda mma Onyame se Ono na mo som no wɔ nokware mu dee} Ɔse: afae barimaa bi ho asem a ɔwɔ akwantuo tentee mu, Ne tiri ho aye fi ne ho aye nfuturo, n'aduane ye akyiwade, ne ntaade ye akyiwade, na nsuo nso ye akyiwade na akyiwadee na tetee no,na ebesiden na y'agye ne mpaebɔ.Musilimu Nhoma 1015

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32]

{Ka se hwan na aye Onyame afefede a ɔde adom ne nkoa akyiwade ne ne neemapa wɔ Onyame adom mu, Ka se ewɔ ho ma Agyidifoɔ wɔ wiasa asetena mu titirw atemmuada, saa ara na ye ye nsenkyerene no nkyerekyerɛ ma edɔm a wɔn wɔ nimdie.} [Suura Al-Aaraf: 32]

Nkramosom ahye Nipa Ahonidie, Akoma ne honam ne efie Ahonidie, enam saa nti Nkramosom ama awaree ho kwan, tese sedee wahye Akɔmhyefoɔ ne Asomafoɔ Onyame asomdwoe nka wɔn, Na wɔn rehye apapafoɔ awaree, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: 72]

{ Na Onyankopɔn bɔɔ mo hokafoɔ firii mo mu, Na Ɔbɔɔ mo mma ne mo nananom firii mo hokafoɔ mu, Na w'aye mo adom wɔ n'adom pa no mu, nti nkontompo na mo gyedie na Onyame adom na mo yi so bɔneae } [Suura An-Nahal: 72]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهَّرَ ۖ وَالرِّجْزَ فَهَجَرَهُ﴾ [المدثر: 4-5]

{ Na w'ataadee nso teho. Na Abosomsom nso twe wo ho firi ho!"}. [Suura Al-Muddasir: 4-5]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Obi biara a akasesem kakra wɔ n'akuma mu nkɔ Onyame turo no mu. Abirantee

bi kaa se: Obi biara pe se n'ataade ne ne mpaboa ye papa, Ɖkɔmhyeni kaa se: Esipi se Onyankopɔn ho ye fe na Ɖpe ade a eye fe, mmom akasesem ne se Obi be po nokware na Ɖmmu Nipa. Musilimu Nhoma 91

34. Nkramosom abra akyiwadee nyina ahyasee te se Onyame mmataho ne bonniaye ne abosomsom ne ntwantosɔ wɔ Onyame so wɔ bere a wo nnim, ne mmɔfra akumkum akumkum, ne kra a Onyame aye no akyiwade kum, ne Asase yi so aseese, ne nkonyayie ne nsembɔne nee adɛedi ne nee asuma, ne adwaman ne Bɛrema ne Bɛrema anaa ɔbaa ne ɔbaa nokutahodie, na waye nsiho akyiwade, aye Aboafunu nam akyiwade, ne aboa a wɔkum ma abosom, na waye prakonam akyiwade ne efi ne adebɔne ahorɔɔ a aka, na waye Agyanka sika akyiwade ne ntesɔɔ wɔ nsenia mu, na waye Abusuafɔɔ ntetemu akyiwade. Na Asomafoɔ nyina ara abra saa akyiwadee ahorɔɔ yi nyina ara.

Nkramosom abra akyiwadee nyina ahyasee te se Onyame mmataho, ne Bonniaye ne Abosomsom ne ntwantosɔɔ wɔ Onyame so ne mmɔfra kum, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْنَا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٢﴾﴾

[الأنعام: 152-151]

{Na ma mo pinkyɛn Agyanka sika gye kwanpa so kɔpim se wɔn beduru mpanin fie so, Na mo nhye nsenia ma perepere, Na ye nhye kra biara gye nee ɔtumiye, na se mo kasa a mo nye perepere se efa Abusuani ho mpo a, na mo nhye Onyame bohye ma, wae ne afutusem a Onyame aka sedee be ye a mo de be ye nkaekae.} [Suura Al-Anaam 151-152]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]

{ Ka sɛ ɛsipi sɛ me Wura ayɛ nsemfo akyiwade neɛ adɛedi ne neɛ asuma, ne bɔne ne asisie, ne sɛ mo bɛ som biribi a enni nyinasoɔ biara aka Onyame ho, ne sɛ mo bɛ ka neɛ mo nni ho nimdie afa Onyankopɔn ho } [Suura Al-Aaraf: 33]

Nkramosom ayɛ Nipakum akyiwade, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33]

{Na ma mo nkum kra a Onyame ayɛ no akyiwade gye nokware kwan so, na Obi kum ne wɔnko wɔ sisie kwan so a, y'ama Owufoɔ adɔfo tumi sɛ wɔn bɛ kum no bi, na mmom ma wɔn ntra hyɛɛ ekum no mu, ɛsipi sɛ ɔyɛ Obi a y'abua no..} [Suura Al-Isra: 33]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akasɛ:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68]

{...Ne wɔn a wɔn nfrɛ Onyame biara nka Onyankopɔn Allah ho, na wɔn nkum kra a Onyame ayɛ no akyiwade gye nokware kwan so na wɔn mmɔ adwaman nso, Na Obibiara a ɔyɛ saa ndwumadie yi bɛ nya ho asotwe atemmuad.} [Suura Al-Furkan: 68]

Nkramosom ayɛ Ɔseesɛɛ wɔ Asase yi so akyiwade, Onyame krɔnkɔni Nɔ akasɛ:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...﴾ [الأعراف: 56]

{ Na ma mo nye asɛesɛefoɔ wɔ Asase so bere a ayeyie akyi.} [Suura Al-Aaraf: 56]

وقال الله تعالى مخبراً عن النبي شعيب عليه السلام أن قال لقومه:

Onyame krɔnkɔni No aka nsem a efa Ɖkɔmhyeni (hyu-ayibu) ho Onyame asomdwoe nka no, wɔ bere a Ɖka kyere ne dɔm se:

﴿وَالِى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 85]

{Oh medom menkrufɔɔ yi mɔnsom Allaah na enye adee mɔho adesom bi efiri nakyi, Nokore me de nokware engyinasoɔ pefee afiri mɔ Awurade ho abre mɔ, Na senti mɔnhye ensenua no ema ene ensusuye, ena Nma mɔ ntesu mma nipa nom dwumadie ena nma mɔ sei asaase yi ewɔ nensiesie akyi, Saa nɔ eye adepa ema mɔ na se moɔye agyediefɔɔ a.} [Suura A'raf: 85]

Nkramosom aye nkonyayie akyiwade, Onyame krɔnkɔni nokwarefɔɔ hoteeni no aka se:

﴿وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَلْبٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69]

{ To wo nsam abaa no toho ebemene nee wɔn aye no, esipi se nee wɔn aye yi, ye nkonyayifɔɔ pɔbɔne, Na nkonyayini nni nkunimdie wɔ baabi biara a ɔbe firi aba.} [Suura Taha 69]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: (Mo ntwe mo ho nfiri ade nso a, esee Nipa na asuafoɔ no kaa se: Ɖkɔmhyeni ade ben nono? Ɖkaa se: abosomsom ne nkonyayie, ne Nipakum a Onyame aye no akyiwade gye nokware kwan so, ne nsihodie, Agyanka sikadie, ne akomu mmirikatuo, ne adwaman nkontompo wɔ agyidifoɔ mmaa ahoteefɔɔ a wɔ bɔ wɔn ho ban). Buhari Nthoma 6857 Nkramosom abra nsemfo nee adɛedi ne nee asuma, ne adwaman ne Berima ne Berima ne Ɖbaa ne Ɖbaa nokutahodie, na Onyame nsem a efa saa nwumabɔne yi adinkan aba wɔ krata yi mu, na Nkramosom aye nsiho akyiwade, Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾ [البقرة: 278-279]

{ Oh Agyidifoɔ eii mo nsuro Onyankopɔn na mo ngya mo sika a aka Nipa nkyen a eye nsiho, se mo ye agyidifoɔ a mo gye Onyame nhyehye tumu (278) Na se ye asoɔdene na mo gye nsiho a, mo nhu se mo ne Onyame ne ne koɔyeni wɔ ako keseɛ, na se mo sakyera a, na gyae nsiho gyegye deɛ a mo dwatere wɔ mo, Na mo nsisi Obiara saa ara na Obi nso nsisi mo(279).} [Suura Al-Bakara 278-279]

Onyankopɔn ammo Obi a oye boɔne kɔkɔ tесе Obi a oɔdi nsiho; efiri se nsiho see esom ne kuro, ne sika ne Onipa kra.Nkramosom aye Aboafunu nam akyiwade, ne aboa a wɔkum ma abosom, na waye prakonam akyiwade, Onyame kɔnkoɔnii No akase:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَّةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ... ﴿٣﴾﴾ [المائدة: 3]

{Y'aye Aboafunu nam akyiwade wɔ mo so ne mogya ne prakonam ne enam a wɔn ammo wɔ so, na Aboa wamia nekɔn ma no awuo, ne nee wɔde ade abɔ no ma no awuo, ne nee ofiri soro abɔ fam awuo, ne nee ne yɔnko abeɔben aku no, ne nee Aboa tесе gyata akum no gye deɛ wanwu na mo akum no, ne nee wɔn akum ama Abosom, ena se mo be hwehwe adom a y'ahyehye ama mo wɔ abisa kwan so, ade yi nyina ara ye asoɔdene na eye boɔne} [Suuratu Al-Maida: 3]

Nkramosom aye nsanom ne efi ahoroɔ nyina akyiwade, Onyame kɔnkoɔnii No akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾﴾ [المائدة: 90-91]

{ Oh Agyidifoɔ eii esipi se eye nsanom ne kyakya ne abosomsom ne abisa, ade yi nyina ye tan na Ɖbonsam (Satan) nsa ano dwuma, nti mo nfiri ho sedee ebe ye a mo be di nkunimdie (90) Esipi se Ɖbonsam pe se Ɖde ɔtan ne abufuo ba montam wo nsanom ne kyakyaɔɔ mu, na wabra mo Onyame nkaekae ne Nyame fre (Asore), nti mo ngyae (nsanom ne kyakyaɔɔ)(91).} [Suura Al-Maida 90-91]

Kratafa a etso (31) mu Onyankopɔn aka Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ahyensodee bi wo apam dadaa mu se Ɖye adetantan ne efi ahoroɔ nyina akyiwade, Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ... ﴾ [الأعراف: 157]

{Wɔn a wo di Ɖsomafoɔ Ɖkɔmhyeni no akyi a ɔnnim akenkan na ɔwo wɔn atweresem no mu wo apam dadaa ne apam mono mu chye wɔn papaye na ɔbra wɔn bonniaye na ɔma wɔn adepa ho kwan na ɔye adefe akyiwadee ma wɔn na ɔyi wɔn adesua ne nkɔnɔnkɔnɔn a eda wɔn so afiri wɔn so, na wɔn a agye n'adi na wo de obuo ama no na w'abua no na wɔn adi ɔhan a y'asane aka no ho no saa nkɔnfoɔ no ne nkonimdifoɔ.} [Suuratu Al-Araf 157]

Nkramosom aye Nipakum akyiwade, Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿ وَأَتُوا الِيتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 2]

{ Mo nyanka sika ma wɔn se wɔn du wɔn mpanin fie so, na ma mo nfa bone nsesa papa, Na ma nni wɔn sika nka mo sika ho, esipi se eye bone kesee.} [Suura An-Nisa 2]

Na Onyame kɔnkɔnii No akase:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10]

{ Esipi se wɔn a edi Agyanka sika wɔ siesie kwan so, eye ogya nko ara na wɔn redi gu wɔn yam, na enkye koraa wɔn be kɔ (Sa-ir) Ogya daree no mu.} [Suura An-Nisa 10]

Nkramosom aye nsanie ntisoɔ akyiwade, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ ۝۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝۴﴾ [المطففين: 1-4]

{ Due ne Ɔseee wɔ asisifoɔ (1)Wɔn a se wɔ tɔ firi Nipa nkyen a wɔ hye nsanie ma perepere (2)Na bere a wɔn betɔn ama Obi no, na wɔn ate nsenie no so (3)Nti wɔn a eye dwumadi bɔne yi nnim pefee se esipi se ye be nyane wɔn wɔ wusɔree da atemmuada abu wɔn nkuntabuo (4)" } [Suura Al-Mutaffifiin 1-4]

Nkramosom aye Abusua ntetemu akyiwade na y'aka asem yi wɔ kratafa (31) Onyame nsem ne Ɔkɔmhyeni nsem a erekyere saa, na Akɔmyefoɔ ne Asomafoɔ Onyame asomdwoe nka wɔn, wɔn nyina ara abra nkyiwade yi

35. Nkramosom rebra suban bɔne tese Nkontompofɔ ne Asisie ne Ɔhaw ne Hwemmɔdie ne Nnaadaa ne Anibere ne Tu obi tiri so agyina ne Krɔno ne Akasesem ne asesie, na Nkramosom rebra suban tantan.

Nkramosom rebra suban bɔne nyina ara, Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ﴾ [لقمان: 18]

{Entwa wo ani nfiri Nipa ho bere a wo kasa wɔn ho anaa se wɔ kasa kyere wo a, na mma w'ani nsa wɔn nye akasesem, na ennante Asase yi so wɔ akasesem mu, Esipi se Onyankopɔn mpe obibiara a Ɔma ne ho so wɔ Nipa so na Ɔde Nipa ho fewdie.}[Suura Lukman 18]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:(Esipi se mo mu dee me dɔ no, dee ben me tenabea atemmuada ye dee wɔ subanpa, Na esipi se mo mu dee mempe no, na ɔwɔ akyirikyiri

atemmuada ye wɔn a ɛka aseresɛm, wɔn a ɛdi Nipa ho fɛw, wɔn a ɛtu wɔn ho, Asuafoɔ busaa sɛ: yenim mienu a ɛdinkan no, Na hwan ne wɔn a ɛtu wɔn ho? Na Ɔkaa sɛ: wɔn a ɛye akasesɛm) Silsilatu Sahiha 791.

﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ [غافر: 28]

Nkramosom rebra Nipa nkontompo sɛm, Onyame krɔnkɔnii No akasɛ:

{ ɛsipi sɛ Onyankopɔn Allah ntene Obi a ɔye sɛsɛsɛfoɔ nkontompo ni.} [Suura Gafir 28]

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasɛ:(ɛye nhye wɔ mo sɛ moka nokware, Na ɛsipi sɛ nokware tane Nipa kɔ papaye, Na ɛsipi sɛ papaye tane kɔ turo no mu, Na Onipa bɛ kɔso aka nokware Na ɔbɛ pɛ nokware kɔpim sɛ yɛbɛ twɛrɛ ne den wɔ Onyame nkyɛn sɛ Nokwarefoɔ).Musilimu Nhoma 2607

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasɛ:(Nyaatwumfoɔ ahyɛnsodeɛ ye miɛnsa wɔn kasa ye nkontomposɛm, wɔn hyɛbɔ a na wɔn abuso, na wo gye wɔn di a na wadi wo hwɛmmɔ).Buhari Nhoma 6095

Nkramosom rebra Nipa asisieɛbaa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nsɛm mu sɛ, bere bi Ɔfaa Aduane bi ho na Obi retɔn na Ɔde ne nsa hyɛɛ mu ma ne nsa fɔɔye, na Ɔkaa sɛ: Aduane wura eii ɛdeɛn nie? Ɔkaa sɛ: Nsuo tɔ guu so Onyame Somafoɔ, Ɔkɔmhyeni kaa sɛ: nka wo de deɛ afɔ no guu soro sɛdeɛ Nipa bɛ hu, Obibiara a Ɔbɛ sisi ye no Ɔnka ye dɔm yi ho.Musilimu Nhoma 102

Nkramosom rebra Asisie, Hwɛmmɔdie ne ndaadaa Onyame krɔnkɔnii No akasɛ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[الأنفال: 27]

{ Oh Agyidifoɔ eii mo nni nokware ma Onyame ne ne Kɔmhyeni na, ma mo ndi wɔn hwemmɔ, na mo adi mo ho hwemmɔ wɔn mo Nyamesom mu, wɔ bere a mo nim trodoɔ } [Suura Al-Anfaal]

Na waka se:

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: 20]

"... Wɔn a wɔdi Onyame bɔhye so na wɔhye no ma, na wɔn mmu bɔhye so." [Suura Ar-Rad]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ka kyere n'sraafoɔ bere wɔn rekɔ ako se: Mo nko wɔ Onyame din mu, ma mo nni Obi hwemmɔ, ma mo mmu mo bɔhye so, na ma mo ntwetwa Owufoɔ, ma mo nkum abɔfra. Musilimu Nhoma 1731

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Suban nnan yi Obibiara a eye ne suban no Ɖye nyaatwumfoɔ kɔnkɔnsa ni pefee na Obi a baako ye suban no kɔnkɔnsafoɔ suban wɔ ne mu kɔpim se Ɖbe gyea: se wo nya awerehyemu wɔ ne mu a, na wade wo hwemmɔ, Na se ɔkasa a, eye nkontompo, na se Ɖhye bɔ a, na wabuso, na se ɔko ntɔkwa a ɔngyae. Buhari Nhoma 34 Nkramosom rebra ahoɔyaa suban, Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَأَتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 54]

{ Anaa wɔn ye Nipa ho ahoɔyaa wɔ deɛ Onyame de ama wɔn wɔ n'adum mu, nokware y'ama Abraham asefoɔ Nhoma ne adwen ne nyansa, na y'ama wɔn ahennie kesee. } [Suura An-Nisa 54]

Na Onyame kɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْتَمُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 109]

{Nhomafoɔ (Akristofo ne jewfo) pii pe se wɔn be ma mo asan akɔ mo bɔne mu bio (Abosomsom) enam wɔn ahoɔyaa nti, bere a adɛedi ama

wɔn sɛ dɛɛ Ɖkɔmhyɛni de aba no yɛ nokware trodoo, Agyidifoɔ eii mo nfa wɔn mfomso nkyɛ wɔn na mo werɛmfɛ wɔn nneɛ kɔpim sɛ Onyame nkyekyɛ bɛ ba wɔn so, esipi sɛ Onyankopɔn wɔ biribiara so tumi] [Suura Al-Bakara 109]

Na Ɖkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<< ɔmɔ subae bonee fii wɔ mɔsu yɛ kaniifoɔ no ɛdom subae ansaana moɔba: ahɔɔyaa ɛne ɛtae ɛyɛ 'haalikqa' na menkase ɛtirenwee ɛyɛ na ɛmom ɛyɛ ɛsom sɛiyɛyɛ ɛyɛfiri ho ɛna mede dɛɛ mekiraa ɛhyɛ nensam sɛ ɛnyɛ adeɛ mɔ bɛwura asorohemaamo algyanna ɛkwɔpim sɛ mɔbɛya gyɛdie ɛna ɛnyɛ adeɛ mɔbɛya gyɛdie ɛkwɔpim sɛ mɔbɛdɔ mɔhɔ asenti menkyire mɔ ɛfa adeɛ a ɛbetimtim wɔ saa su amamɔ? mɔnpete asomdwie nkyia 'Salaam' ɛwɔ mɔntem >>Sunan At-Tirmizi Nhoma 2510

Nkramosom rebra ɛpɔbɔne, Onyame kokroko No akase:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: 123]

{Na sɛdɛɛ (Makah) kuromfoɔ si Nyamesɛm ho kwan no, saa ara pɛpɛɛ na ɛdɔm biara mu yɛ yɛ atitiriwfoɔ nkurofo a wɔn frɛ kɔ bɔne so na wɔn si Nyamesɛm ho kwan na wɔn ko tea Asomafɔɔ, Nanso wɔn pɔbɔnee no sanbɔ wɔn ara, na mmom wɔn nhu saa ɛnam sɛ wɔn nnimbiribiara na wɔdi wɔn apɛdɛɛ akyi.} [Suura Al-Anam 123]

Na Onyame kokroko abɔ amanɛɛ sɛ (jew) dɔm no bɔɔ mmɔden sɛ wɔ bɛ kum Yesu (Jesus) Onyame asomdwoe nka no, na wɔn bɔɔ ɛpɔbɔne mmom Onyame sɛɛ wɔn pɔ no, na Onyame kyɛɛ sɛ pɔbɔne nfata obibiara gye wɔn a ɛbɔ pɔbɔne, Onyame kokroko No akase:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ

اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُتِبْنَا مَعَ

الشَّاهِدِينَ﴾ وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ

وَرَأَيْتَكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٢﴾ [إل عمران: 52-55]

{Bere a Yesu (Jesus) hu se wɔn Atimtim wɔ bɔne mu no, Ɔka kyere wɔn se: hwan na be bua me wɔ Onyame dawubɔ yi mu? Ne yɔnkɔfo nokwarefo kaa se: yen na be bua Onyame dawubɔ, ye agye Onyame atum, na di adanseɛ se, esipi se ye ye Nkramofɔɔ(52) Oh ye Wura y'agye neɛ wasane no atum na y'adi Ɔsomafoɔ no akyi enam eyi nti twere yen ka adansedifoɔ ho (53) Na wɔn bɔɔ pɔbɔne na Onyankɔpɔn sɛe wɔn pɔbɔne no, na Onyankɔpɔn nim pɔbɔne biribiara wɔ rebɔ (54)Kae bere Onyankɔpɔn kaa se: Yesu (Jesus) eii mɛfa wo na mɛma wo so wɔ honam ne sonsom mu aba me nkyen, mɛte wo ho ayi wo afiri bɔniayefɔɔ mu, na mɛma wɔn a adi wo Ɔkɔmhyeni Mohammed akyi no so asene wɔn a eyɛ bonniayefɔɔ kɔpim atemmuada, Bio me nkyen na mo be sane aba na m'abua mu atɛn wɔ neɛ na mo gye ho akyenyedie no(55).} [Suura Aali-Imraan 52-55.]

Na Onyame kokroko abɔ amaneɛ se: Onyame Kɔmhyeni (Sualah) Nyame asomdwoe nka no dɔm no bɔɔ mmɔden se wɔ be kum no,na wɔn bɔɔ pɔbɔne, na Onyankɔpɔn sɛe wɔn bɔɔ epɔbɔne esɛe wɔn ne wɔn dɔm nyina ara, Onyame kokroko No akase:

﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا
دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾﴾ [النمل: 49-51]

{ Na wɔn ka kyere yɔnkɔɔ se: Obiara nni nse nkyere ne yɔnkɔ se, ye be tu ahyɛ Onyame Somafoɔ Sualah) so ne n'abusua prɛkɔpɛ na y'akum wɔn, Na y'aka akyere n'abusua se, ye nni hɔ wɔ rekum no, na ye ye nokwarefoɔ (49)Na wɔn abɔ pɔbɔne afa agyidifoɔ ho, na y'abɔ pɔ se yebe boa Agyidifoɔ, na wɔn nnim ho hwee (50)Na hwe sɛdeɛ wɔn pɔbɔnee no awiei ase wɔn ene se y'asɛe wɔn ne wɔn dɔm nyina ara(51)..} [Suura An-Naml 49-51]

Nkramosom rebra Nipa nkontompo, Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:•Dwamanbɔ ni mmɔ adwaman wɔ bere a Ɔye

gyidie ni, Na Owifo mm̄o Kr̄ono w̄o bere a Ɔye gyidie ni, Na k̄owinsa ni nnom nsa w̄o bere a Ɔye gyidie ni, Na adwene sakra ep̄ono mu abue dah̄o ma Obibiara. Al-Buhari Nhoma 6810 Nkramosom rebra Nipa asisie, Onyame kokroko No akase:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ ﴾

يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل: 90]

{ Esipi se Onyankop̄on rehye Nipa pereperereyo papaye, ne n'abusua a w̄on ben no papaye, Na Ɔrebra Nipa nsemfo ne b̄one ne asisie, Onyame retu mo afutuo s̄edee ebe ye a mo be kaekae. } [Suura An-Nahal]

Na Ɔk̄omhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Esipi se Onyankop̄on ahye me nk̄om se mo mbra mo ase, s̄edee ebe ye a Obi nsisi Obi, na Obi nye akesesem w̄o Obi so. Abu Dawud 4895 Nkramosom rebra Asisie, Onyame kr̄onk̄onii No akase:

﴿... وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمران: 57]

{ Na Onyankop̄on Allah no Ɔmpe Asisifōo asem. } [Suuratu Al-Imrana 57]

Na waka se:

﴿... إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأنعام: 21]

{ Esipi se Asisifōo nni nkunimdie dabiara da.!" } [Suura Al-Anam 21]

Na waka se:

﴿... وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإنسان: 31]

{".. Na Onyame asiesie asotwe a eyeyaw ato Asisifōo h̄o aтеммуада. (Ní ti) àw̄onalábòsí, Ó s̄i p̄esè iyà el̄eta-elérosil̄e dè w̄on. } [Suura Al-Insan 31]

Na Ɔk̄omhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Nipa miensa mpaeb̄o nye kwa: Ɔkandinī pereperereni, Obi a, Ɔkyere k̄om k̄opim se ɔbe gu ak̄omkyere no, ne Obi a, wasisi no mpaeb̄o, yema so to eb̄o so na y'abue Ɔsoro akwan nyina ara, Na Onyankop̄on tumi wura

akase : me de me tumi dinse, esipi se megye wo frɛ so abua wo mpo se ekye koraa.Muslimu Nhoma 2749 nsesamu kakra,Tirmizi Nhoma 2526 nsesamu kakra,Ahmed Nhoma8043 na eyi ne Nsem.

Na bere a Ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no sumaa Muaz kɔɔ Yemen kuro mu no, na nee Ɔka kyerɛ no bi ne se:Na suro Obi a w'asisi no mpaebɔ, esipi se ban biara nni ene Onyame ntam.Buhari Nhoma 1496

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Mo nhunu se Obi a ɔbe sisi Obi a y'ahye no bɔ, anaase ɔbe te n'asɛdeɛ so, anaase ɔbe hyeno nee ɔntumi nyɔ, anaase ɔbe gye biribi afiri ne nkyɛn wɔ bere a enye ɔno ara nade akye no, eye me na be ye ne ngyinasoɔ eɗa atɛmmuada.Sunan Abii Daud 3052.

36. Nkramosom rebra nsiho wɔ sika dwuma biara mu, anaase ɔhaw anaase nnaadaa, anaase asisie anaa nee de ɔsɛɛɛ ne ɔhaw biara ba mantamu, abusua ne Nipa so.

Nkramosom rebra nsiho wɔ sika dwuma biara mu, anaase ɔhaw anaase nnaadaa, anaase asisie anaa nee de ɔsɛɛɛ ne ɔhaw biara ba mantamu, abusua ne Nipa so.Na Onyame ne Ɔkɔmhyeni nsem adinkan wɔ kratafa yi mu a erebra nsiho anaase asisie anaase apoobɔ anaase Asase yi so asɛɛɛɛ, Onyame kokroko No aka se:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

[58] ﴿الأحزاب﴾

{ Na wɔn wɔ ha agyidifoɔ mmerima ne agyidifoɔ mmaa ka bɔne nsem to wɔn a enye bɔne a wɔn aye no, nokware wɔn asua nkontompo ne bɔne adaade pefe.} [Suura Al-Ahzab 58]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46]

{ Obibiara a Ɔbe di dwumadipa no ɔdi ma ne kra, na Obibiara nso a ɔdi dwumadi bone no ɔdi tia ne kra, na wɔ Wura Nyankopɔn nnye sisifoɔ de ma n'akoa.} [Suura Fussilat:46]

Aba Ɔkɔmhyeni nkyerekyerɛ (Sunnah) mu sɛ, (Ɔsomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no apua sɛ ma Obibiara nha ne kra anaa ne yɔnk).Sunan Abii DaudNa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasɛ:Obibiara a ɔgye Nyame die ne atɛmmuada no ma no nha neɛ ɔte bɛn no, na Obi a ɔgye Nyame die ne atɛmmuada no ɔnfa Obuo ma ne srasrafo, Obi ɔgye Nyame ne atɛmmuada die no Ɔnka kasapa, anaasɛ ɔnyɛdeen. Nsem foforo mu: Ɔnye Obi a ɔte bɛn no papa.Musilimu Nhoma 47

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasɛ:(Yɛ twee ɔbaa bi aso enam Agyinamoa ho, Ɔtoo no ponom kɔpim sɛ owuɛ, na Ɔbaa yi kɔɔ bonsam gya mu, wamma Agyinamoa no Aduane anaa nsuo bere a Ɔtoo no ponomu saa ara nso na wangyae no ma no ankɔ didi wɔ Asase so).Al-Buhari Nhoma 3482

Wae ne Obi waha Agyinamoa na Obi a ɔbe ha Nipa asotwe ne sɛn, na Umar ba barima aka sɛ: Ɔsomafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no foro gyinaa ne kasabea Ɔmaa ne ne so kaa sɛ:Ɛye mo a mo de mo ketrema agye Nkramosom na gyidie nni mo akuma mu, ma mo nha Nkramofoɔ ma mo nka wɔn ho asem bone, na ma mo nhwehwɛ wɔn anim guasi, na esipi sɛ Obi a ɔbe tu anamɔn ahwehwɛ ne yɔnko kramoni anim guasesɛm no Onyame be hwehwɛ n'anim guase, na Obi a Nyame be hwehwɛ n'anim guase no Ɔgu n'anim ase, na mpo sɛ ebe nam ne fiɛni so koraa, Ɔkaa sɛ: ɛdabi Umar ba ahwe Nyame fie no anaasɛ (kaaba) na Ɔkaa sɛ : wo gyinabea so na wo banbɔ so nanso Ogyidieni wɔ gyinabea ne banbɔ kɛsɛe wɔ Nyame nkyɛn sene wo.Tirmizi Nhoma (2032), Ibin Hibban Nhoma (5763)

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akasɛ:Obibiara a ɔgye Nyame die ne atɛmmuada no ma no nha neɛ ɔte bɛn no, na Obi a ɔgye Nyame die ne atɛmmuada no ɔnfa Obuo ma ne srasrafo, Obi ɔgye

Nyame ne atemmuada die no Ɔnka kasapa, anaase ɔnyedeɛn. Buhari Nhoma 6018

Ye nyaa saa nsem yi firi Abi Huraera nkyɛn Ɔse: Ɔkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka sɛ: (Ɛnti mo nim Obi a Ɔnni hwee(Almuflis)?) Asuafoɔ kaa sɛ: Ɔye Obi a Ɔnni Sika (Diinaar) ne Noɔma, Ɔkɔmhyɛni kaa sɛ : (Ɛsipi sɛ Obi a Ɔnni hwee (Almuflis) wɔ me dɔm yi mu ne Obi a Ɔbɛba atemmuada na Ɔde akɔmkyene ne asɔre ne ntotosoɔ dudu (Zakat) ho nhyira aba nanso wadi wae atɛm na watwa ntwantosɔɔ ato wae so, na wadi wae sika, na yeɛde no agyinahoɔ na yayi eyi nyina afiri ne dwumadipa mu, na sɛ ne nhyira nyina sa bere a wantua ne bɔne akatua nyina a, na y'agye wɔn a wayɛ wɔn bɔne no bɔne aka ne bɔne ho afae na yato no ato Ogya no mu. Muslimu Nhoma 2581, Tirmizi Nhoma 2418, Ahmed 8029 na nsem ye ne nsem. Na Nyame Somafoɔ aka sɛ: (Na Dua sene da kwan so a eha Nipa na berima bi yi firii kwan no so enam eyi nti Ɔkɔɔ turo no mu). Buhari Nhoma (652) ne n'asekyere, Muslimu Nhoma (1914) ebi pɛpɛpɛ, Ibun Maaja Nhoma (3682), ne Ahmed Nhoma (10432) na eyi ye wɔn mienu nsem, Ɔhaw a eɛda kwan mu yie de Nipa kɔ turo no mu, Na Obi a Ɔha Nipa sae wɔn asetena gyenabere ne sɛn?

37. Nkramosom bɛbɔɔ adwene ho ban beyɛ biribiara a ebɛsɛe adwene biara akyiwade tese nsanom, na ama adwene gynaɛba so, an aye no asɛdeɛ ngyinasoɔ, ayi no afiri nkontompo nkɔnsɔnkɔnsɔn ne abosomsom mu, Na Sumasɛm anaase mmera nni Nkramosom mu ɛwɔ ɛdɔm pɔtee bi a dɔm foforo nka ho, Na ne mmera ne ne nhyehyee nyina ara ne adwenpa kɔpɛ na eyɛ pɛpɛpɛre ne nyansa ahwehwɛ de.

Nkramosom bɛbɔɔ adwene ho ban bɛ pɛgyaa adwene gynaɛbere Nyame kokroko aka sɛ:

﴿... إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]

{ Esi pi se, nsemmisa wo ho ma odasani biara fa dee ode n'aso tiee, ne dee ode n'ani hwe ne dee obo ho po wo n'akoma mu fa papa anaa bone ho..} [Suura Al-Isra 36]

Nti eye nhye wo Onipa so se Obob n'adwen ho ban enam eyi nti Nkramosom aye nsa ne nnu bone akyiwade, na y'aka nsa ho nsem wo kratafa (34) na Kuran Nhoma no mu nsem pii a efa nsanom ho no nee twa nsem no toz ye Okokroko no asem yi:

﴿... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]

{... Sedee ebe ye a mo be ko adwendwene mu adwene ho."} [Suura Al-Bakara 242]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارٌ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

﴿[الأنعام: 32]

{ Na wiase asetena yi nye biribiara gye aguro ne ahuhude, na esipi se awiee da fie no na ye papa, esombo ma won a Osuro Nyankoron, nti mo nfa nko adwendwene mu ndwene ho } [Suura Al-Anam 32]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: 2]

{ Esipi se yen na yesanee Nhoma no se akenkan Nhoma wo Arab kasa mu ama mo sedee ebe ye a mo de be ko adwendwene mu adwene ho.} [Suura Yusuf: 2]

Na Onyame kokroko aye nkyerekyere se tenenee ne adwene Obi nni ho nfaso gye won a eye anyansafo, na won ne badwenbafo, Nyame kokroko aka se:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]

{ Ɖde adwene ne nyansa ma Obi a Ɖpe, Na Obi a yebe ma no adwene ne nyansa no nokware y'ama no papa pii, na pii ndwene ho gye anyansafo badwenbafo.} [Suura Al-Bakara: 269]

nam eyi nti Nkramosom aye adwene ade a Ɖhye nkyerekyerε nyina gyinaso Onyame Somafni no aka se :Y'ama twerεdua no so afiri Nipa miensa ho: Obi a wada kɔpim se Ɖbe sɔre ne Abɔfra kɔpim se Ɖbe nyin adu ne mpanin bere ne Ɖdamfo kɔpim se n'adwen beba bio.Ɛbi wɔ Buhari Nhoma (5269), ntuaso wɔ Abu Daud Nhoma (4402) na eyi ye ne nsem, ne Tirmizi Nhoma (1423) na Nasaayi wɔ (Sunan Kubura) Nhoma (7346), ne Ahmed Nhoma (956) nsesaye kakra, Ne Ibun Maaja Nhoma (2042) teawa.Na wayi no afiri nkontompo nkɔnsɔnkɔnsɔn ne abosomsom mu Nyame kokroko aka dɔm pii ho nsem wɔ kwan a wɔn asɔ nkontompo aserεsem mu na wɔn apo nokware a aba wɔn so firi Onyankɔpɔn nkyen

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ [الزخرف: 23]

{Na sɛdeε nkorɔfo yi atwa wɔ so nkontompo, na wɔn de wɔn agya nom amamere aye ngyinasoɔ, y'ansoma Asomafɔw wɔ w'ananim wɔ kuro bi mu se Somafɔw a Ɖbɔ ne dɔm kɔkɔ gye wɔn kandefo akasesemfo wɔ asikafo ka kyere no se: ye nyaa y'agye nom wɔ saa kwan yi so, na esipi se ye nam wɔn kwan no so..} [Suura Az-Zukhruf: 23]

Onyame krɔnkɔni No aka nsem a efa Ɖkɔmhyeni (hyu-ayibu) ho Onyame asomdwoe nka no, wɔ bere a Ɖka kyere ne dɔm se:

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا

عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ [الأنبياء: 52-53]

{ Ɛdeen ne saa mfonini yi a mo te ho εsom berebiara (52) Wɔn kaa se: Ye nyaa y'awofo se wɔn resom mfonini yi (53)} [Suura Al-Anbiya 52-53]

Na Nkramosom ba behyεε Nipa se wɔn ngyae abosomsom na wɔn ntwe wɔn ho nfiri aserεsem ne nkontompo a wɔ nyaa wɔn Awofɔw ne

wɔn Nananom wɔ mu, na wɔn nni Asomafɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn kwan so. Sumasem anaase mmera nni Nkramosom mu ɛwɔ ɛdɔm pɔtee bi a dɔm foforɔ nka ho. Ye busaa Ali Abi Taalib ba Onyame ngye no ntum ma yen, na Ɔye Ɖkɔmhyeni papa panyin ba berima, Ɔye Ɖkɔmhyeni babaa kunu se: nti Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ama mo nko biribi anaa? Na Ɖkaa se: Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no mma yen biribi a Nipa a aka nkaho bi gye me nkrante nnuraho yi, Ɖkaa se: na Ɖyii krataa bi y'atwere mu se: Onyame adome Obi a watwa Aboa ama biribi a ɛnye Nyame, na Onyame adome Obi a wawia biabi wɔ Asase so, na Onyame adome Obi a wadome n'awofo, Onyame adome Obi a wɔbe gye Nipa a ɔde biribi foforɔ hyehye nkramosom mu. Musilimu Nhoma 1978

Na Nkramosom mmera ne ne nhyehyee nyina ara ne adwene a ɛteapɔw kɔpɛpɛpɛ, na ɛye pɛpɛpɛ ne nyansa kwan pɛpɛ pɛ.

38. Na ɛsom ahorɔ ɛye yera som no, wɔn ɛdi akyire no ntee aseɛ nhunu nsem a ɛne yɔnkɔ bɔ abera wɔ mu ne nsem adwene ngye ntum, anaase wɔn som mmerima a wɔdi som akyi na wɔn hunu se ɛsom da adwene so, na adwene nni hwee fa ɛsom nteaseɛ ho, Wɔbere a Nkramosom afa Nyamesom se hann a ɛwɔ kwan ma adwene, na yerasom a aka no repe se Onipa gyae n'adwen na Ɖnni wɔn akyi saa ara, Na Nkramosom repe se Onipa nkanya n'adwen sedee ɛbe ye a Ɖbe hunu nokware a ɛwɔ biribiara mu ne sedee etee.

Na ɛsom ahorɔ ɛye yera som no, wɔn ɛdi akyire no ntee aseɛ nhunu nsem a ɛne yɔnkɔ bɔ abera wɔ mu ne nsem adwene ngye ntum, anaase wɔn som mmerima a wɔdi som akyi na wɔn hunu se ɛsom da adwene so, na adwene nni hwee fa ɛsom nteaseɛ ho, Wɔbere a Nkramosom afa Nyamesom se hann a ɛwɔ kwan ma adwene, na yerasom a aka no repe se Onipa gyae n'adwen na Ɖnni wɔn akyi saa ara, Na Nkramosom repe se Onipa nkanya n'adwen sedee ɛbe ye a Ɖbe hunu nokware a ɛwɔ biribiara mu ne sedee etee nyame kokroko no aka se:

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

[الشورى: 52]

{Na sɛdɛɛ y'ahyɛ Akɔmyɛfoɔ a adinkan no nkɔmhyɛ no saara na yɛdɛ Kuran Nhoma no ahɛ wo nkɔm firi yɛ nkyɛn, Na ansa nkɔmhyɛ yi na wɔ nnim Nhoma ahorɔɔ y'asane ama Akɔmhyɛfoɔ no, na na wo nnim gyidie, mmom y'asane Kuran Nhoma sɛ hann yɛdɛ tene dɛɛ yɛpɛ wɔ yɛ nkoa mu, na ɛsɪpi sɛ wo tene Nipa kɔ kwan teneneɛ so} [Suura Ash-shura: 52]

Na ngyinasɔɔ ne nokware na wɔ Onyame nkɔmhyɛ mu a ɛtɛne adwenpa kɔ nokware a ɛwɔ nɛɛ ɔkenkan mu ma no hu na afaɛ ɔgyedi Onyame kokroko no aka sɛ:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

[النساء: 174]

{ Oh Nipa eii nokware ngyinasɔɔ aba mo nkyɛn firi mo Wura hɔ, Na y'asane hann pefɛɛ ama mo.} [Suura An-Nisa: 174]

Na Onyame krɔnkɔni kokroko no repɛ sɛ teneneɛ hann ne nimdie ne nokware wɔ Onipa asetena mu, Na Abonsamfoɔ ne Abosom repɛ sɛ Onipa ka bɔnɛ sum ne fratam ne yera mu daa Nyame kokroko no aka sɛ:

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ... ﴿٢٥٧﴾ [البقرة: 257]

{ Onyankɔpɔn yɛ agyidifoɔ dɔfo Ɔyi wɔn firi yera sum mu kɔ hann kwan so, Na bɔniayɛfoɔ adofɔɔ ne Abosom wɔ yi wɔn firi hann mu kɔ yera sum mu.} [Suura Al-Bakara: 257]

39. Nkramosom ama nimdipa gyinabere so na erehye Nipa se Ɔmpe nimdie a akuma apedeɛ nka ho, na Nkramosom refre se ye nhwe ye ho ne Wiase atwa ye ho, ne nimdipa aba a efi mu ba ma Wiase, ene Nkramosom nkyerɛkyere mmɔ abera.

Nkramosom ɛma nimdipa gyinabere so Onyame kokroko aka se:

﴿... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

﴿١١﴾ [المجادلة: 11]

{ Onyankopɔn ma Agyidifoɔ wɔn wɔ mo mu gyinabere so, Ne wɔn a y'ama wɔn nimdie, na Onyankopɔn bebɔ mo ndwumadie nyina ho amanie akyerɛ mo.} [Suura Al-Mujadala:11]

Na Onyame de nimdifoɔ adansedie aka N'adansedie ne Abɔfoɔ adansedie ho wɔ adansedie keseɛ mu na Onyame kokroko no aka se:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ﴾

﴿١٨﴾ [آل عمران: 18]

{Onyankropɔn adi adanse se Onyame biara nni ho ɔfata ɔsom wɔ nokware mu gye Onyankropɔn baako pe, Na Abɔfoɔ ne nimdifoɔ nso di adanse, na nimdifoɔ gyena pintee wɔ pɛpɛre ye mu, Nyame biara nni ho a ɔfata ɔsom wɔ nokware mu gye Onyankropɔn baako nkunimdifoɔ ne ɔnyansafo Nyame.} [Suuratu Al-Imrana /18]

Na eyi rekyere nimdie gyinabea wɔ Nkramosom mu, na Nyame anhye ne Kɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no se ɔnsere ntosɔ wɔ biribiara mu gye nimdie mu,na Nyame aka se:

﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]

{“ Na ka se me Awurade fa nimdie bi ka me ho!.} (Suura Taha: 114)

Na Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:<<Obi a wafa nimdie kwan so rehwehwe nimdie no Nyame aye Oturo kwan no mere ama no, na esipi se Abɔfoɔ bre n'ataban ase ma nimdie

hwehwefoƿ wɔ peneso, na esipi se nimdie hwehwefoƿ biribiara a ewo Suro ne Asase mu srɛ bɔnefakye ma no mpo nsuom nam nyina sere bɔnefakye ma no, na esipi se nimdie gɔnabea wɔ Nyamesom ni so tese Bosome gɔnabea ne nsuomma a aka, na esipi se nimdifoƿ adi Akɔmyefoƿ adee, esipi se Akɔmhyefoƿ anni sika eye (Diinaar anaa Dirham) na mmom wɔn dii nimdie se awugyade na Obi fa nimdie kwan a wafa kyefa kɛsee paa yie>>Abu Daud Nhoma (3641), Tirmizi (2682),Ibin Maaja (223) na nsem ne, Ahmed (21715)...

Na Nkramosom rehye Nipa se wɔn pe nimdie krɔgyen a Akuma pedee nka ho, na ɛrefere se wɔn nhwe wɔn ho ne Wiase a atwa wɔn ho, na wɔn ndwene ho, Nyame aka se:

﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: 53]

{ye be kyere wɔn ye nsenkyerene wo wiem ne wɔn honam mu kɔrim se ɛbedeedi ama wɔn se Nyame Nhoma no ye nokware, Enti Nyame adansedie nso abosomsomfoƿ se wɔn be gye adi se Nhoma no firi Nyame nkyen, Na esipi se Onyame di biribiara ho adanseɛ} [SuuratuFussilat: 53]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 185]

{Enti saa nkontompofoƿ yi nhwe Ɔsoro ne Asase ahennie mu, Ne nee Onyame abo wɔ ntam, Na wɔn nhwe wɔn nkwa a aka kakra na wɔn akɔ ɔsaee mu, Na kɔkɔbo asem ben na wɔn gyedi wɔ Kuran Nhoma yi nsem akyi bio} [Suura Al-Araf: 185]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾ [الروم: 9]

{Enti saa bɔniayefoɔ yi nnante wɔ Asase yi so na wɔn nhwe asoɔdenefoɔ adikanfoɔ no awieɛ, na saa dɔm no wɔ ahooɔdene sene wɔn, Na wɔn tutuufom dɔɔ afuo see adan wɔ Asase yi so tese sɛdeɛ bɔniayefoɔ yi asisi Dan, na wɔn Akɔmyefoɔ de nkyerɛkyere baa wɔn nkyɛn maa wɔ twaa so nkontompo, na Nyame ansisi wɔn bere a ɔtwee wɔn aso sae wɔn, Na mmom wɔn ara na de bɔniaye asae wɔn ho.} [Suura Ar-Rum: 9]

Nimdipa aba afiri mu aba ne Nkramosom nimdie mmɔ abera, na yebe ka nhwesoo baako a Kuran Nhoma adikan aka ho nkyerɛkyere adɔsuko wɔ mu, firi bere tentene beye nfie apim baako ne aduanan akyi, na nimdie adano adi saa bere yi, Na nimdie aba afiri mu aba rekyere nee aba Kuran Nhoma no mu pɛpɛ pɛ, eno ne Abɔfra ho nkyerɛkyere wɔ ɔmaame awodeɛ mu, Nyame kokroko aka se:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا اللَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾﴾ [المؤمنون: 12-14]

{ Na nokware nokware ye bɔɔ Nipa agya (Adam) firii dɔteɛ mu (12) Afae ye bɔɔ n'asefo firii nkwaboa ete ɔmaa awodeɛ mu (13) Afae ye danee nkwaboa no mogyatua wɔ awodeɛ no mu, na ye danee mogyatua no namfua kɔkɔ, Afae ye bɔɔ kasɛe wɔ mogya no mu, na yeɛde nam adura nkasɛe no ho afae ye huu nkwa too ne mu maa no yeɛ Nipa foforo, nhyira nka Onyankopɔn Allah ɔbɔ Abɔdeɛ na ɔbɔ no yie a hotɛe nka no(14) } [Suura Al-Muminun: 12-14]

40. Na Nyame ngyi Obi dwumadie mma no ho akatua wɔ atemmuada gye Nipa a wagye Nyame adi na waye sutie ama ne nsem na wagye N'aƆomhyefɔɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn atumu wɔ nokware mu, Na Nyame ngye Ɔsom bi gye ɔsom a wahyehye ho mmera, esiden na Nipa yi Nyame bɔniaye na ɔsan pe Nyame akatua pa? Na Nyame ngye Nipa biara gyedie gye se Ɔgye Akɔmyefɔɔ Nyame asomdwoe nka wɔn nyina tum, na ɔgye Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn Nhoma tumu.

Na Nyame ngyi Obi dwumadie mma no ho akatua wɔ atemmuada gye Nipa a wagye Nyame adi na waye sutie ama ne nsem na wagye N'aƆomhyefɔɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn atumu wɔ nokware mu, Nyame aka se:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ [الإسراء: 18-19]

{Obi a ne botae ne, ne nwumadie nyinaa be ye wiase yi mu ha asetena pa bi nti no, na wannye atemmuada da no anni no,yebeye no ntem ama no dee ye pe de ma no na mmom nye adom a ɔpe de ma ne ho na ɔbenya. Afei, yebema no ogya deree awura mu atemmuada no, na ɔhyew no be ɔɔpa no, n'anim begu ase se ɔyii wiase ha na ɔpoo atemmuada no. Ye yi no afiri Onyankopɔn[Allah] ahummɔbrɔ mu(18)Na obi a ɔbedi dwumadi pa na ne botae nyinaa ne se ɔbenya atemmuada akatua pa no, na ɔbebɔ ne ho mmɔden mmɔdemmo pa ara no, na wagye dee Onyankopɔn ahye yen se yenye ni no adi no, na wɔnom a wɔn sohye ye saa nsohye yi, esipi se, Onyankopɔn [Allah] begye wɔnom mmɔdemmo no ato mu, na Ɔbema wɔnom mmɔdemmo no so akatua(19)..} [Suura Al-Isra, 18-19]

Na Nyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾ ﴾

[الأنبياء: 94]

{ Na Obibiara a ɔredi dwumadipa na ɔye gyidie ni no, ne dwumadie nnye kwa mmom ye be ma no ho nhyira na ɔbe to se y'atwere wɔ ne ndwuma Nhoma mu atemmuada } [Suura Al-Anbiya: 94]

Na Onyankopɔn kokroko ngye ne nkoa dwumadie biara gye dwumadie a Ono na ahyehye ama wɔn, Nyame kokroko aka se:

﴿ .. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴾

[الكهف: 110]

{ Na Obibiara a ɔrepe se ɔhyia ne Wura no, ɔndi dwumadipa na ma no mfa mbataho biara nka ne Wura ho. } [Suura Kahf 110]

Na wakyere adwuma nye dwumadipa a gye dwuma a eka neɛ Nyame akyekye wɔ ne som mmera mu na dwumadifoɔ no adi dwuma no ama Nyame nko ara, wɔ bere a ɔye Ogyidie wɔ Nyame mu ne nokware adansedie ma N'aKɔmhyefoɔ ne Nesomafoɔ Nyame asomdwoe nka wɔn, Na Obi a ne ndwumadie ntesae nokware Onyame aka se:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٣﴾ ﴾ [الفرقان: 23]

{ Na y'afa wɔn dwumadie a wɔn adi wɔ Asase yi so, na y'aye ndwuma no nfuturo a ahwete ". } [Suura Al-Furkan: 23]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿ ۞ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَدِيعَةٌ ﴿٢﴾ ۞ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ ۞ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ ۞ [الغاشية: 2-4]

{... Saa dano ebi anim be bere ase(2) Wɔn aberɛ agu na yeɛde nkɔnsɔnkɔnsɔn na betwe wɔn (3) Saa animu no beko ogya hyew mu ma ahye wɔn. (4) } [Suura Al-Gashiya: 2-4.]

Na saa animu a aberɛ ase wɔ wɔn dwumadie ho, nanso bere a na wɔn di wɔn dwumadie wɔ kwan a enye Nyame kwan tenenee so no, Nyame aye ne kɔbia ogya enam se wanfa Nyame mmera adane anni dwuma mmom ɔsom yera som ahorɔɔ na ɔdii ayafoɔ akyi, wɔn a eɛde yera ndwuma foforo na wɔn som mu, Na Nyame gye dwumadipa tumu na dwumadipa ne dwuma a ene neɛ ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne

n'asomdwie nka no de aba ye pe, na ebesiden na Nipa be yi Nyame boniaye na osan pe ne n'akatu??Na Nyame nnye Obi gyidie gye se ogye Akomyefo Nyame asomdwoe nka won nyina tum, na ogye Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no Nhoma no tum, Na y'adikan aka ngynasoo efa ho wo kratafa (20) na Nyame aka se:

﴿أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{Osomafo no anya gyedie efa dee y'asani ama no efiri ne Awurade ho ene agyediefoc nom, Won nyinara anya gyedie efa Onyame Allaah ene N'aboafoc ene ne Nwoma ene N'asomafo no na ye nraepae omo ntem kro koraa,ena won aka se: yate ye be desu, ye hwehwe bonefakye yen Awurade ena wonkye neye sankwobiya..} [Suura Baqara: 285]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رُسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]

{ Oh eye mo de maya gyedie ama Onyame Allaah ene nesomanii ene nenwoma dee yasoma ama nekomhyani ene dee yasani kani ansaana,ena dee obeye kaafiriya efa Onyame Allaah ene nasoroboafoc ene nenwoma ene nesomafo no ene awieye eda na nokware wayira yiraa eware.} [Suura Nisaai: 136]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

{Okomhyeni kae bere a Nyame gye Akomyefoc bohye denedene kaa se: sedee m'ama mo Nhoma a y'asane wo mo so ne adwene a m'akyerε mo ne gynabea biara Obi adu, Afae Osomafo no (Mohammed) baa mo

nkyen bedii nokware adanseε wɔ neε wɔ mo nkyen, mo bε gye neε Ɖde aba no adi, na mo abua no, Nyame kaa se: Akɔmyefoɔ nti mo agye atumu na mo bε hye bɔhye denedene? Akɔmyefoɔ kaa se: aana y'agye atumu, Nyame kaa se: mo nni adanseε wɔ mo ne mo dɔm so, na me nso ka mo ho wɔ adansedie mu!.) [Suuratu Al-Imrana /81]

41. Esipi se Nyame Nhoma nyina botae ne se: Nokwaresom no bε fre Nipa ma no ayε nokwarefoɔ ama Abɔdeε Wura, na ayi Nipa afiri nkoasom ma Nipa foforo anaase biribi anaa nkontompo mu, Na sedee wo hu Nkramosom no enkyere se Nipadua binom ye krɔnkɔn, na Emma wɔn so nsene wɔn gyenaberε, na enye wɔn Nyame foforo nso.

Esipi se Nyame Nhoma nyina botae ne se: Nokwaresom no bε fre Nipa ma no ayε nokwarefoɔ ama Abɔdeε Wura, na ayi Nipa afiri nkoasom ma Nipa foforo anaase biribi anaa nkontompo mu, Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Ɖsaeε aka Akoa a N'akuma bata sika (Diinaar ne Dirham) ne mmerima ntaade ne mmaa ntaade, se yema no bi a na n'ani agye na se ye bra no bi a na newere aho. Al-Buhari Nhoma 6435

Na Nipa a watene no ɔmberε ne ho ase mma biribiara gye Nyame nko na Sika ntumi nye no Akoa anaase Obi animonyam anaase Dibere bi anaase Abusua, na nkyerekyere saa abakɔsem yi mu a erekyere Ɖkenkan ni dee na Nipa wɔ mu bere a Nyame nsem yi nniho ne sedee wɔn setee wɔ nsem no akyi. Bere a Nkramofoo a adikane no tuu Batatuo kɔ (Ethiopia) no, na ɔhene a ɔwɔhɔ saa bere no ne Annagyahyi (Annajashi), Ɖbusaa wɔn kaa se: Edeen ne saa som yi a mo de atete mo dɔm mu, na mo anwura me som mu anaa edɔm bi som? dwafar (Jafar) Abi Taalib ba ka kyere no se: Ɖhene eii na ye ye dɔm a ye ye fratamfoɔ ye som Abosom na ye di Aboafunu nam, na ye bɔ adwaman ye tete Abusua ntam, na ye ye wɔn a ete ben ye bɔne, neε wɔ tumi wɔ ye mu tuhye neε ɔye mere so, na saa abrabɔ na ye wɔ mu, Kɔpim se Onyame somaa Ɖsomafoɔ wɔ ye mu a ye nim n'ase (n'abusua) ne nokwaredie, ne

subanpa wɔ ahwɛsodee ne nhyɛsoɔ ho, na Ɔfrɛɛ yɛ sɛ yɛ nyɛ Nyame kro na yɛ nsom no, na yɛ ngyaɛ neɛ yɛ som, yɛn ne y'awofo a ɛnyɛ Nyame wɔ mmoba ne abosom, na wahyɛ yɛn nokware ka, ne nhwɛsodee ho banbɔ, ne Abusua nkabom ne papayɛ ma wɔn a ɛte bɛn yɛ, na yɛ ngyaɛ bɔne ne mogya hwie, na wabra yɛn adwaman ne nkontompo adansodie ne Agyanka sikadie ne ntwantosɔɔ wɔ agyidifoɔ mmaa so, na wahyɛ yɛn sɛ yɛ nsom Nyame nko ara, na ma yɛ nsom biribiara nka ne ho, na wahyɛ yɛn asɔreyɛ (Sallah) ne ntotosɔɔ dudu ne akɔmkyene, Ɔkaa sɛ: na ɔbubɔɔ Nkramosom asɛdɛɛ kyerɛɛ no, na yɛ gyee ne nokware tuumu nyaa gyidie wɔ ne mu, na yɛ dee n'akyi wɔ dee ɔde aba, na yɛ som Onyame baako na y'ansom biribiara anka ne ho, na yɛ yɛɛ neɛ wayɛ no akyiwade wɔ yɛ so akyiwade, na yɛ maa neɛ wama ho kwan nso ho kwan. Muslimu Nhoma (1740) ne nsesaye kakra, ne Abu Naim wɔ Hulyatul Awuliya Nhoma mu (1/115) wa bɔ no tɔfa. Na sɛdɛɛ wo hu Nkramosom nfa Nipa sɛ wɔn yɛ krɔnkɔn na Emma wɔn so nsene wɔn gyenaberɛ, na ɛnyɛ wɔn Nyame foforo. Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

{“Ka sɛ Oh Nhomafo eii mo mbra na yɛ nsɔ asem baako a ɛyɛpɛ wɔ yɛ ne mo nyina ntam, ɛne sɛ ma yɛ nsom biribiara gye Onyankopɔn na ma yɛ nfa mmataho nka ne ho, na ma yɛ nfa yɔnkɔɔ sɛ Nyame wɔ Nyankopɔn akyi, Na sɛ wɔn dane wɔn ani firi nokware ne pɛrɛpɛrɛ nsem ho a, Agyidifoɔ mo nka nkyɛrɛ wɔn sɛ mo ndi adanseɛ sɛ yɛ de yɛ ho atwere Onyame na yɛ yɛ Nkramofɔɔ.} [Suuratu Al-Imrana /64]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 80]

{“Na ɛnse mfata sɛ Ɔbɛ hyɛ mo sɛ, mo nfa Abɔfoɔ ne Akɔmyɛfoɔ sɛ Onyame na mo nsom wɔn ngyaɛ Nyankopɔn baako no, nti eyi fata

anaa? Σε οβε hye mo se ma mo nye Nyame nni wo mo ahoberεasee ne awerehyemu a mo ada no ade wo Onyame mu na mo ye Nkramofow" } [Suuratu Al-Imrana: 80]

Na Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase:Ma mo nkamfo me pii tese sedee Akristofa kamfo Yesu (Jesus) na mmom me ye Onyame Akoa nti mo nka se Nyame Akoa ne ne Somafow.Buhari Nhoma 3445.

42. Nyame aye adwene sakra wo Nkramofow se kwan a Nipa de sakra ko ne Wura nkyen na ogyae bone, Na Nkramosom pepa dwumabone a, adikan, na adwene sakra nso pepa bone a atwam, nti enni se Obi ka ne bone na ogye tum wo Nipa anim.

Nyame aye adwene sakra wo Nkramofow se kwan a Nipa de sakra ko ne Wura nkyen na ogyae bone, Onyame kronkonii No akase:

﴿... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]

{ Na mo nya adwene sakra nko Nyame nkyen mo nyina ara, Oh Agyidifow sedee ebe ye a mo be di nkunimdie } [Suura An-Nur: 31]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 104]

{ Nti won nnim se Onyankopon regye adwene sakra wo ne nkoa ho, na oregye adoye ma ho nhyira, na esipi se Nyankopon na de bone kye na One Odεefow hene } [Suura At-Tawba: 104]

Na Onyame kronkonii No akase:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى:

[25

{ Ɖno Onyankopɔn ne Nyame a ɔregye adwene sakra wɔ ne nkoa ho, na Ɖde bɔne kye, na Ɖnim dwumadie mo di.} [Suura Ash-Shura: 25]

Na Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Esipi se Onyankopɔn wɔ anigyee kɛsee wɔ N'akoa gyidie ni a wa nya adwene sakra mu, sene Obi a waduru Asase bi a ɔsae asetena nye yie wɔ so, na N'aboa ɔteso ka ne ho, n'aduane ne ne nsuo wɔ Aboa no so, Na nna afa no bere a wasi rehome, na bere a ɔnyanee no, na N'abua no kɔ na ɔnhwehwe Aboa no kɔpim se nsukɔm deɛ no, Afae Ɖkaa se: me sane ako me dabere ako da ma owuo abe fa me, na ɔde ne tiri soo ne soneɛ so se owuo nfa no, na bere a ɔsɔreɛ no na N'abua no gyina ne so, na n'aduane ne ne nsuo ne biribiara wɔ Aboa no so, Na Onyam wɔ anigye kɛsee Akoa N'akoa a ɔbe sakra sene saa Akoa gyidini yi wahu N'aboa. Musilimu Nhoma 2744

Na Nkramosom see nee dinkan wɔ bɔne mu, na adwene sakra nso pepa bɔne a adinkan, Onyame kokroko No akase.

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ

الْأُولَىٰ ﴾ [الأنفال: 38]

{Ka kyere wɔn a eye bɔneyefoɔ a wɔ ngye Onyame nni no se: se wɔn sakra gyae bɔne a yede wɔn bɔne a atwam be kye wɔn, Na se wɔ san wɔn akyi kɔdi bɔne no bio a nokware se tetefoɔ kwan no dahɔ, ene se ye asotwe beba wɔn so prekope.} [Suura Al-Anfal: 38]

Na Onyankopɔn afre Akristofo se wɔn sakra, Na Okokroko na aka se:

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونََهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 74]

{ Enti wɔn nsakra nko Onyankopɔn nkyen, na wɔn nserɛ bɔnefakye, Na Onyankopɔn Allah ye bɔnefakye hene Ahomɔburɔ hene.} [Suura Al-Maida: 74]

Onyame ahye asoɔdenefoɔ ne abɔneyefoɔ nyina ara nkuran wɔ adwene sakra ho, Na Okokroko na aka se:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ [الزمر: 53]

{ " Ka se Oh me nkoa a mo adi bɔne aseɛ mo kra, ma mo mpa aba wɔ Onyame ahomɔburɔ mu, Esipi se Onyankopɔn nade bɔne nyina kye, esipi se Ono ne bɔnefakye hene ahomɔborɔ hene. } [Suura Az-Zumar: 53]

Na bere a, Amru Asu ba berima sii gyinaye se Ɖbe sakra no, ɔsuroo se ne bɔne a waye ansa Ɖreba Nkramosom mu ye nfa nkye no, Amro aka wɔ gyinabere yi mu se: Bere a, Onyankopɔn Ɖkesefoɔ nkonimdifoo de Nkramosom too m'akoma mu no, Ɖko so kaa se: me baa Ɖkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka nkyen se ɔmmɔ m'akyi dɔm na Ɖtene ne nsa maa me, na me kaa se: me mmɔ w'akyi dɔm kɔrim se wode me bɔne a adinkan bekye me, na Onyame Somafoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ka kyerɛ me se: Oh Amro eii nti wo nnim se batatuo pepa bɔne a adinkan, Amro eii wo nnim se Nkramosom de bɔne a adinkan kye Obi a wanya adwene sakra. Muslimu Nhoma (121) ebaa tentene, ne Ahmed Nhoma (17827) na eyi ye ne nsem.

43. Na Nkramosom mu twaka a eɔa Nipa ne Onyame ntam ye prekope, na wo nhia se Obi be wɔ wo ne Onyame ntam, Nkramosom rebra se ye be ye Onipa Nyame anaase yede no be ka Onyankopɔn ho wɔ Onyame ndwumadie ne ne esom mu.

Wɔ Nkramofoo mu enhia se wo be ka wo bɔne na w'agye atum wɔ Onipa anim, Nkramosom mu twaka a eɔa Nipa ne Onyame ntam ye prekope, na wo nhia se Obi be wɔ wo ne Onyame ntam tese sɛdeɛ aba wɔ kratafa (36) mu se, Onyankopɔn kokroko afre Nipa nyina ara se wɔn nya adwene sakra na wɔn nsakra nko ne nkyen, na Ono ara na asane abra, Nipa se ma wɔn nfa Akɔmyefoo ne Abɔfoɔ se adantamu wɔ Ɖne ne nkoa ntam, na Onyame kokroko aka se:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

[آل عمران: 80]

{Na ense mfata se Ɖbe hye mo se, mo nfa Abɔfoɔ ne Akɔmyefoɔ se Onyame na mo nsom wɔn ngyae Nyankopɔn baako no, nti eyi fata na anaa? Se ɔbe hye mo se ma mo nye Nyame nni wɔ mo ahoberɛasee ne awerɛhyemu a mo ada no ade wɔ Onyame mu} [Suuratu Al-Imrana: 80]

Nkramosom rebra se ye be ye Onipa Nyame anaase yede no be ka Onyankopɔn ho wɔ Onyame ndwumadie ne ne esom mu:

﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا

أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31]

{Jewfo de wɔn nimdifɔɔ aye Nyame na Akristofo de wɔn Nyamesomfoɔ aye wɔ Onyankopɔn no akyi, na Akristofo aye Yesu (Jesus) Nyame aka Onyankopɔn ho, na ye nhye wɔn biribiara gye se wɔn nsom Onyame baako pe, Nyame biara nni hɔ a gye Ɖno ahotee nka no fa deɛ wɔn resom bata ne ho.} [Suura At-Tawba: 31]

Na Onyame apo se a bɔniayefɔɔ rebefa adantamu wɔ wɔn ne no ntam. Onyame kokroko aka se:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

[الزمر: 3]

{"Nti enye Onyame na wɔ esom a abosomsɛm biara nni mu, na wɔn a agya Nyame hɔ na wɔn afa Abosom se wɔn adɔfo na wɔn resoma abosom gyaɛ Nyame som, na wɔn reka se: ye nsom wɔn biribiara nti gye wɔn de ye ben Awurade nkyen na wɔn de ye adeserɛde to n'anim, esipi se Onyankopɔn be bua atɛn wɔ Agyidifoɔ ne abosomsomfoɔ ntam ɛda atɛmmuada wɔ nsɛm a wɔn di ho akyenyedie no, esipi se Onyankopɔn ntene Obi a Ɖye nkontomponi a Ɖngye Nyame nni.} [Suura Az-Zumar: 3]

Na Onyame akyerɛ se Abosomsomfoɔ - fratam bere nkorɔfo no na wɔn fa adantamu wɔ wɔn ne Onyame ntam, na wɔn reka se : esipi se

ede wɔn bɛ bɛn Onyankopɔn. Na sɛ Onyame abra sɛ Nipa bɛ fa Akɔmyɛfɔw anaase Abɔfɔw adantamu wɔ Ɖne ne nkoa ntam deɛ a ; na Obibiara nfata edeen nti, efiri sɛ Akɔmhyɛfɔw ne Asomaƒɔw Onyame asomdwoe nka wɔn keka wɔn ho wɔ kwan wɔn bɛ bɛn Onyankopɔn mu, na Onyankopɔn kokroko aka Akɔmhyɛfɔw ne Asomaƒɔw ho nsem sɛ:

﴿... إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْحَيَرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾

[الأنبياء: 90]

{ Esipi sɛ na wɔn keka wɔn ho wɔ asotie ne papaye mu na wɔn bɔ mpae frɛ ye a, wɔn pɛ ye ahomɔburɔ na wɔn Suro ye asotwe, na wɔn ye Nyame sorofɔw wɔn Suro yen.} [Suura Al-Anbiya: 90]

Na Onyame krɔnkɔnii Nɔ akase:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا...﴾ [الإسراء: 57]

{Na wɔn a wɔsu frɛ wɔn wɔ abɔfɔw mu ne wɔn a wɔka abɔfɔw ho, wɔn ankasa mpo no(abɔfɔw, akomhyɛfɔw ne awufɔw) a wɔsu frɛ wɔn sɛ wɔmmaa wɔn no, wɔpɛ dwumadi pa a ebɛma wɔaben Nyankopɔn, na wɔde sotie ne nyamesom ye akansie wɔ wɔntam sɛ, hwan na ɔbetumi de sotie abɛn Nyankopɔn paa yie, saa ara nso na wɔpɛ sɛ Nyankopɔn hu wɔn mmɔbɔ, na wɔsuro sɛ Nyankopɔn betwe wɔn aso, oh ɔsomani ee! esi pi sɛ, wo wura Nyankopɔn mpɔnse no ne adeɛ a ɛwɔ sɛ obiara ye ahweyie wɔ ho.} [Suura Al-Isra: 57]

Kyerɛ sɛ wɔn a mo frɛ wɔn a ɛnye Nyame no, wɔ Akɔmhyɛfɔw ne Aƒapaƒɔw mu no, wɔn ara mpo de dwumadipa rebɛn Nyame repɛ ne ahomɔburɔ na wɔn resuro n'asotwe, na edeen nti na wɔ frɛ wɔn sere wɔn ade gyae Onyankopɔn kokroko.

44. Krataa yi awieε mu ye ka se sedee Nipa bere ahoroɔ na wɔn dɔm ahoroɔ ne wɔn kuro ahoroɔ mpo Nipa kwasafɔ nyina bɔ abera, wɔ adwene ne botae, ne kwasafɔ ne ndwumadie ahoroɔ bɔ abera, na Ɔhia Nipa nkyerεkyerε ne nhyehyee εbe ye nkabom, ne atɛnboafɔ a ɔbe bu atɛn, Na Asomafɔɔ akɔnkɔfo no Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn, wɔn na de Nyame nkɔmhye hwe saa ndwuma yi so, na wɔn tene Nipa kɔ kwanpa ne tenenee so na wɔn aboa Nipa wɔ Nyame mera so na wɔn bu atɛn tenenee wɔ wɔn ntam wɔ nokware mu, na wɔn ndwuma aye yie enam asotie a wɔn ye maa Asomafɔɔ yi nti, ne wɔn merε a εben Onyame kɔmhye merε, na Onyame de Ɔkɔmhyeni Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nkɔmhye atwa akɔmhye nsem nyina toɔ, na wabɔ ho ban, na waye no tenenee ne ahomɔburɔ ama Nipa ne hann ne akwan kyerε a εde wɔn be kɔ Onyame krɔnkɔn nkyen..

Krataa yi awieε mu ye ka se sedee Nipa bere ahoroɔ na wɔn dɔm ahoroɔ ne wɔn kuro ahoroɔ mpo Nipa kwasafɔ nyina bɔ abera, wɔ adwene ne botae, ne kwasafɔ ne ndwumadie ahoroɔ bɔ abera, na Ɔhia Nipa nkyerεkyerε ne nhyehyee εbe ye nkabom, ne atɛnboafɔ a ɔbe bu atɛn, Na Asomafɔɔ akɔnkɔfo no Nyame nhyira ne n'asomdwie nka wɔn, wɔn na de Nyame nkɔmhye hwe saa ndwuma yi so, na wɔn tene Nipa kɔ kwanpa ne tenenee so na wɔn aboa Nipa wɔ Nyame mera so na wɔn bu atɛn tenenee wɔ wɔn ntam wɔ nokware mu, na wɔn ndwuma aye yie enam asotie a wɔn ye maa Asomafɔɔ yi nti ne wɔn merε a εben Onyame kɔmhye merε, na bere a yera ne fratam adɔɔso wɔ babiara ne abosomsom no; Onyame de tenenee ne nokwaresom somaa ne Kɔmhyeni Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no se Ɔnyi Nipa nfiri bɔniayεsum ne fratam ne abosomsom mu nkɔ gyidie ne tenenee kwan so. Enam eyi nti me refre wo Onipa eii se wo begyina wɔ nokware mu ma Nyame nsuasua amamerε ne amanee, na hu se esipi se

wo wuo akyi wo be wo wura nkyen, na hwe wo ho ne Wiase a atwa wo ho, enam eyi nti fa wo ho ma Nyame fa Nkramosom na w'ani be gye wo wo wiase asetena ne wo atemmuada asetena mu.

45. Na se wo pe se wo wura Nkramosom mu a biribiara nni wo so gye wo di adanse se Onyame biara nni ho a ofata Nyamesom wo nokware mu gye Nyame fua baako no nko, na Mohammed ye Onyame Somafo, na twe wo ho firi bibiara a yesom a enye Nyame ho, na ye ngye nni se nokware Onyame be nyani won a ewo samanpo mu, na atemmuada atemmuo ne akatua no ye nokware, na se wo di saa adansedie yi a nokware waye Kramoni, na wae akyi no nee da wo so ne se wo be som Onyankopon wo kwan a wahye so wo Asoreye mu, Akomkyene, Nyame fie akwantuo se wo nya ho tumi. Enam eyi nti me fre wo Onipa se gyina ma Nyame wo nokware mu, na twe wo ho firi asuasua ne amamere ho, tese sedee Nyame kokroko afre Nipa wo n'asem mu se.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنَّيْ وَأَفْرَدَيْ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ

جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: 46]

{ Okomhyeni ka kyere won se: esipi se me tumo fo wo suban baako ho, ene se mo ntwe mo ho nfiri akonno bone ho na mo sore mma Allah mienu mienu ne baako baako, na mo ndwene nhunu nfa mo yonko yi ho, Ommwo dam esipi se onye Obiara gye Kokoboni de ma mo ansa Nyame asomdwoe aba mo so se mo angye ne sem antumu.} [Suura Saba: 46]

Na hunu se wo wuo akyi no wo be ko wo Wura nkyen Nyame kokroko aka se:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُتَهَىٰ ﴿٤٢﴾﴾ [النجم: 39-42]

{ " Na Onipa nni biribiara gye ne dwumadie a wadi ho nhyira39) Na ne dwumadie be daadi pefee wo atemmuada Afae na y'ama ne dwumadie ho nhyira (40) wo bere a seneto biara nnim (41) Na esipi wo Ɔkɔmhyeni Wura nkyen na won nyina ara be ko Owuo akyi(42)..} .

[Suura An-Najm: 39-42]

Na hwe wo ho ne Wiase a atwa wo ho Nyame kokroko aka se:

﴿ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ

يَكُونَنَّ قَدْ أَقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ۗ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ [الأعراف: 185]

{Enti saa nkontompofoo yi nhwe Ɔsoro ne Asase ahennie mu, Ne nee Onyame abo wo ntam, Na won nhwe won nkwa a aka kakra na won ako ɔsaee mu, Na kɔkɔbo asem ben na won gyedi wo Kuran Nhoma yi nsem akyi bio" } [Suura Al-Araf: 185]

Nti sakra fa wo ho ma Nyame na wo be nya anigyee wo wo wiase ne atemmuada asetena mu, na wo pese wo wura Nkramosom mu a nee da wo so a ne se wo be di adanse se Nyame biara nnihɔ a ɔfata esom wo nokware mu gye Onyame baako no nko, na Mohammed ye Nyame Somani. Na bere a Ɔsomafo Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no somaa Muaz wo Yemen kro mu se onko bo dawuro nfre Nipa nko Nkramosom mu no Ɔka kyeree no se: (Esipi wo be hu dom bi wo kwan so a won ka Nhomafo ho fre won ko adansedie ho na won nni adanse se Nyame biara nnihɔ a ɔfata esom wo nokware mu gye Onyame baako no nko na me ye Nyame Somani, Na se won ye sutie ma wo a kyere won se Onyame aye asore mpre num nhye da won so adekyee ne adesae biara mu, na won ye sutie ma wo a, kyere won se Onyame aye adoye (Sadaka) nhye da won so eye sika a yegye firi won Asikafo nkyen ma won Ahiafo, na se won ye sutie ma wo a ye ahweyie wo won sika kɔnkɔn ho). Musilimu Nhoma 19 Na twe wo ho firi biribiara Obi som a enye Nyame, na saa ntweho firi nee won som no kyere Abraham Nyame Asomdwoe nka no kwan tenenee no, Nyame aka se.

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ وَحَدِّثُ...﴾ [الممتحنة: 4]

{ “ Nokware mo asuasua pa wo Abraham ne agyidifoɔ a won ka ne ho, bere a won ka kyere won dom se:esipi ye ne mo ntam wa na yatwe ye ho afiri mo ho ne nee mo som a enye Nyame, y'ayi mo boniaye na otan ne abufuo wo ye ne mo ntam daa kopim se mo be gye Nyame baako pe no adi } [Suura Al-Mumtahina 4]

Na gyidi se Nyame be nyane won ewo Samanpo mu Onyame aka se:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: 6-7]

{ Eyi kyere se esipi se Nyame ne nokwarefoɔ, na Ono na nyane Awufoɔ, na Ono na wo biribiara so tumi(6)Na esipi se emere kесеe no (atemmuada) reba akyinnye biara nni ho, na esipi se Onyame renyane won ewo Samanpo mu. (7) ”} [Suura Al-Haj 6-7]

Na esipi se nkontabuo no ne akatua no ye nokware Nyame aka se:

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

﴾ [الجاثية: 22]

{ Na Onyame boɔ Osoro ne Asase wo nokware mu, ne sedee ebe ye a Kra biara be nya nee waye ho akatua na ye nsisi won kakra koraa.} [Suura Al-jathiya 22]

Na se wo de saa adansedie yi a waye Nkramoni na wae akyi nee dawo so ne se wo be som Nyame wo kwan a wahyehye so asoreye ne zakayie ne akomkyene ne Nyame fie ho kwantuo se wo hya so tumi a ne dee kekaho. Bere a Nhoma yi puee 19-11-1441

Nhoma yi twerefoɔ Dokuta Mohammed Abdullah ba As-Sahiim. Okyerekyerani a wado sukɔ wo gyidie nimdie mu, wo efa a efa Nkramosom adesua ho (edikan).

Nteteɛ Suapong kесеe Ohene Suud (Malik Su-ud).

Saudi Arabia man Ahenkro Riyad.



موسوعة المصطلحات الإسلامية
TerminologyEnc.com



موسوعة تضم ترجمات المصطلحات
الإسلامية وشروحها بعدة لغات



موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com



موسوعة تضم ترجمات للأحاديث
النبوية وشروحها بعدة لغات



موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com



موسوعة تضم تفاسير وتراجم
موتوقة لمعاني القرآن الكريم

IslamHouse.com



مرجعية مجانية إلكترونية
موتوقة للتعريف بالإسلام



منتقى
المحتوى الإسلامي



موسوعة تضم المنتقى من
المحتوى الإسلامي باللغات

نبذة موجزة عن الإسلام (نسخة مشتملة على الأدلة)

تحتوي
الإسلام
بأكثر من
100
لغة

جمعية خدمة المحتوى
الإسلامي باللغات



جمعية الدعوة
وتوعية الجاليات بالربوة

